

# اصلاحی خطبات

جلد ۱۸

- یہ دنیا آخری منزل نہیں
- صراطِ مستقیم حاصل کرنیکا طریقہ
- اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے
- حاسد سے پناہ مانگو
- صرف اللہ سے مانگو
- اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ
- خیالات اور وہم کا علاج
- شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں
- جادو اور آسیب کا علاج
- سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں
- افضل صدقہ کونسا؟

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

مہینہ سبیل اللہ

# اصلاحی خطبات

جلد 18

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

ضبط و ترتیب

مفتی محمد عبداللہ میمن

استاد جامعہ دارالعلوم کراچی۔

میمن اسلامک پبلشرز

لیاقت آباد نمبر ۱۔ کراچی ۱۹

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

خطاب :	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ
ضبط و ترتیب :	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب استاد جامعہ دارالعلوم کراچی۔
تاریخ اشاعت :	2015/
باہتمام :	محمد مشہود الحق کلیا نوی : 0313-9205497
کمپوزنگ :	خلیل اللہ
ناشر :	میمن اسلامک پبلشرز
جلد :	18
قیمت :	= / روپے
حکومت پاکستان کا پی رائٹس رجسٹریشن نمبر	

### ملنے کے پتے

- میمن اسلامک پبلشرز، کراچی۔ 0313-920 54 97
- مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ
- مکتبہ دارالعلوم، کراچی ۱۴۔
- مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور۔
- دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی۔
- ادارۃ المعارف، دارالعلوم، کراچی ۱۴۔
- مکتبہ معارف القرآن، دارالعلوم، کراچی ۱۴۔
- کتب خانہ اشرفیہ، قاسم سینٹر، اردو بازار، کراچی۔
- مکتبہ دارالعلوم، سلام کتب مارکیٹ، بنوری ٹاؤن، کراچی۔
- مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی، نزد جامعہ فاروقیہ، کراچی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## پیش لفظ

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

الحمد لله و کفی، و سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے، اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالیٰ سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، آمین

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب پانچ سو تک ہو گئی ہے، انہی میں سے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمائیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں شائع کیا، اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ ”اصلاحی خطبات“ کے نام سے شائع

کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ثانی بھی کی ہے، اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، انکی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں، اس طرح ان کی افادیت اور بھی بڑھ گئی۔

ان کتاب کے مطالعہ کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریر نہیں، بلکہ خطابي ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر محتاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقیناً احقر کی کسی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے ہے، لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

نفسے بیاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت و چہ معانیم

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذریعہ آخرت ثابت ہوں، اللہ تعالیٰ نے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطابت کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرمائیں، آمین

محمد تقی عثمانی

دارالعلوم کراچی ۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## عرض ناشر

الحمد للہ ”اصلاحی خطبات“ کی اٹھارویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، سترہویں کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے اٹھارویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضا ہوا، اور اب الحمد للہ دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں صرف ایک سال کے عرصے میں یہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئی، اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولانا عبد اللہ میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات انتھک محنت اور کوشش کر کے سترہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمائے، اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین

طالب دعا

# اجمالی فہرست

اصلاحی خطبات جلد نمبر : ۱۸

صفحہ نمبر	عنوان
۲۷	﴿۱﴾ یہ دنیا چند روزہ ہے (تفسیر سورۃ الفاتحہ) (۴)
۳۹	﴿۲﴾ یہ دنیا آخری منزل نہیں (تفسیر سورۃ الفاتحہ) (۵)
۵۳	﴿۳﴾ اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے (تفسیر سورۃ الفاتحہ) (۶)
۷۱	﴿۴﴾ صرف اللہ سے مانگو (تفسیر سورۃ الفاتحہ) (۷)
۸۵	﴿۵﴾ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ (تفسیر سورۃ الفاتحہ) (۸)
۹۹	﴿۶﴾ شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں (تفسیر سورۃ الفاتحہ) (۹)
۱۰۹	﴿۷﴾ سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں (تفسیر سورۃ الفاتحہ) (۱۰)
۱۲۵	﴿۸﴾ اپنی کوشش پوری کرو (تفسیر سورۃ الفاتحہ) (۱۱)
۱۳۹	﴿۹﴾ اللہ کی طرف رجوع کرو (تفسیر سورۃ الفاتحہ) (۱۲)
۱۵۳	﴿۱۰﴾ صراط مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ (تفسیر سورۃ الفاتحہ) (۱۳)
۱۶۷	﴿۱۱﴾ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی اہمیت
۱۸۱	﴿۱۲﴾ حاسد سے پناہ مانگو (سورۃ الفلق) (۱)
۱۹۳	﴿۱۳﴾ سورۃ الفلق کی تلاوت (۲)
۲۰۷	﴿۱۴﴾ حسد کا علاج (سورۃ الفلق) (۳)

۲۲۱	﴿۱۵﴾ سورۃ الناس کی اہمیت
۲۳۷	﴿۱۶﴾ خیالات اور وہم کا علاج
۲۵۳	﴿۱۷﴾ جادو اور آسب کا علاج
۲۶۹	﴿۱۸﴾ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے
۲۸۵	﴿۱۹﴾ سادہ زندگی اپنائیے
۳۰۹	﴿۲۰﴾ افضل صدقہ کونسا؟



## فہرستِ مضامین (تفصیلی فہرست)

عنوان

صفحہ نمبر

### ﴿یہ دنیا چند روزہ ہے﴾

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۴)

۳۰	انبیاء کی بعثت رحمت کا تقاضہ ہے
۳۱	پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے
۳۲	ہمیں عارضی مالک بنا دیا گیا ہے
۳۲	ایک دن ظاہری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی
۳۳	آج کس کی بادشاہت ہے؟
۳۴	دنیا کی زندگی بے حقیقت ہونے والی ہے
۳۶	کیا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے؟
۳۷	یہ دنیا چند روزہ ہے
۳۸	دنیا کے لئے بس اتنا کام کرو

### ﴿یہ دنیا آخری منزل نہیں﴾

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۵)

۴۲	پہلی آیت میں توحید کی طرف اشارہ
۴۲	دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ
۴۲	تیسری آیت میں آخرت کا بیان
۴۳	ساری حکمرانیاں اور منسلکتیں ختم ہونے والی ہیں

۲۳	تمہارے قول و فعل کا حساب ہوگا
۲۵	دنیا سے ایک دن جانا ہے
۲۶	سورۃ الفاتحہ میں رحمت والی صفات
۲۷	یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں
۲۸	آج کی دنیا جرائم اور ظلم کی دنیا کیوں؟
۲۹	ایک خاتون کا سبق آموز واقعہ
۵۰	بچے کی پیدائش کا انتظار
۵۱	اس خاتون کی استقامت
۵۱	نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی
۵۱	یہ آخرت کے عذاب کے خوف کا نتیجہ تھا

﴿اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے﴾

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۶)

۵۵	تین آیات تین عقیدے
۵۸	ان سب پر عمل کیسے ہوگا؟
۵۹	عبارت کا مفہوم
۶۰	اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی
۶۱	والدین اور شوہر کی اطاعت میں دھوکہ
۶۲	والدین کی اطاعت کی حد
۶۳	اللہ کی غلامی اختیار کر لو

۶۳	یہ جھوٹا اقرار تو نہیں کر رہے ہیں!
۶۴	عبادت کے کیا معنی؟
۶۴	شراب کی عادت
۶۵	یورپ میں شراب پر پابندی کا نتیجہ
۶۶	اہل عرب اور شراب
۶۷	عرب میں شراب کی حرمت کا نتیجہ
۶۹	ایک صحابی کا سبق آموز واقعہ
۷۰	اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز قربان

### ﴿صرف اللہ سے مانگو﴾

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۷)

۷۳	تمہید
۷۵	وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تشریح
۷۵	عظیم نکتہ عظیم سبق
۷۶	ایسے معاشرے میں کیسے چلوں؟
۷۶	میدان حشر کا تصور کرو
۷۸	اس کا کیا جواب ہے؟
۷۸	بے تکلفی سے مانگو
۷۹	یہ دعا کرو
۸۰	ایک سبق آموز واقعہ

صفحہ نمبر	عنوان
-----------	-------

- |    |  |
|----|--|
| ۸۰ | میرے اندر کا مسلمان بیدار ہو گیا       |
| ۸۱ | دو باتوں پر اس کو راضی کر لو           |
| ۸۲ | اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا |
| ۸۳ | مجھے مسلمان کر لو                      |
| ۸۴ | اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں        |

### ﴿اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ﴾

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۸)

- |    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| ۸۷ | تمہید                               |
| ۸۸ | اس آیت کا پہلو                      |
| ۸۸ | اللہ ہی سے مدد مانگو                |
| ۸۹ | اس آیت کا دوسرا پہلو                |
| ۹۰ | ایک اور نکتہ                        |
| ۹۰ | اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ      |
| ۹۲ | ایک نادان بچے سے سبق لو             |
| ۹۳ | ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگو       |
| ۹۳ | مختلف مواقع کی دعائیں               |
| ۹۵ | ایک دعا بھی قبول ہو جائے تو         |
| ۹۵ | اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے |
| ۹۶ | خلاصہ                               |

## ﴿شفادینے والے اللہ تعالیٰ ہیں﴾

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۹)

۱۰۱	تمہید
۱۰۲	اس آیت کا تیسرا پہلو
۱۰۳	یہ شرک کے اندر داخل ہے
۱۰۴	مدد بھی اللہ ہی سے مانگی ہے
۱۰۴	شفادینے والے اللہ تعالیٰ ہیں
۱۰۴	دو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے
۱۰۵	گا ہک کون بھیج رہا ہے؟
۱۰۶	ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو
۱۰۶	انشاء اللہ کہنے کا رواج
۱۰۷	آگ کو گلزار بنا دیا

## ﴿سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں﴾

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۰)

۱۱۱	تمہید
۱۱۲	دوسرے جملے میں عقیدہ توحید
۱۱۳	سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں
۱۱۳	سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں
۱۱۴	قبروں پر سجدہ کرنا شرک ہے
۱۱۴	یہ مشرکین کا عقیدہ تھا

۱۱۵	طواف کی عبادت
۱۱۵	کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں
۱۱۵	دوسروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا
۱۱۶	ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کونجات
۱۱۷	ہم تو صبح و شام دوسروں سے مدد مانگتے ہیں
۱۱۸	دوسروں سے مدد مانگنے کی حقیقت
۱۱۸	کیا شفاء دینا ڈاکٹر کے اختیار میں ہے؟
۱۱۹	مدد اللہ ہی سے مانگو
۱۲۰	حقیقی مؤثر اللہ ہی ہے
۱۲۰	بارش دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں
۱۲۱	ظاہری اسباب بھی صرف زندوں سے
۱۲۱	دنیا سے چلے جانے والے بزرگوں سے مدد
۱۲۲	صرف اللہ سے مانگو

﴿اپنی کوشش پوری کرو﴾

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۱)

۱۲۷

تمہید

۱۲۸

سیدھا راستہ کیا ہے؟

۱۲۹

لفظ ”راستہ“ لانے کی وجہ

۱۳۰

ہدایت کی دو قسمیں

۱۳۱

پہلی ہدایت عام، دوسری خاص

۱۳۲

ایک اور جامع دعا۔

۱۳۳

تین کام کرو

۱۳۴

حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل

۱۳۵

تم بھی یہ دو کام کرو

۱۳۶

اس آیت کے ذریعہ یہ سبق دیا جا رہا ہے

۱۳۷

اس سے پہلے دو چیزیں

۱۳۸

یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق ہے

### ﴿اللہ کی طرف رجوع کرو﴾

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۲)

۱۴۱

تمہید

۱۴۲

اللہ سے صراط مستقیم مانگئے

۱۴۳

ٹیرھی مانگ کے لئے تعویذ

۱۴۴

آج کے دور میں ہم کس طرح عمل کریں؟

۱۴۵

اللہ کے دربار سوال و جواب

۱۴۶

ہم سے رجوع کیوں نہیں کیا؟

۱۴۷

حضرت یونس علیہ السلام نے کس طرح رجوع کیا؟

۱۴۸

اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں

۱۴۹

مایوس مت ہو جاؤ

۱۴۹

چالیس روز تک یہ دعا کرو

۱۵۰

دنیا کی فکرات میں مدہوش ہیں

۱۵۰

روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر لیا کرو

۱۵۱

دھیان سے یہ الفاظ پڑھو

### ﴿صراط مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ﴾

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۳)

۱۵۵

تمہید

۱۵۶

سب ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں

۱۵۷

صراط مستقیم کی ہر جگہ ضرورت ہے

۱۵۸

علاج میں صراط مستقیم کی ضرورت

۱۵۸

ہم لوگوں کی حالت

۱۵۹

ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب

۱۶۰

ایک بزرگ کا واقعہ

۱۶۱

صراط مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ

۱۶۲

ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ

۱۶۳

دو چیزیں ساتھ ساتھ اتاریں

۱۶۴

کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتے

۱۶۴

اللہ کی کتاب کے لئے رسول کی ہدایت



## ﴿سورة الفلق اور سورة الناس کی اہمیت﴾

۱۶۹	تمہید
۱۷۰	سورة الفلق اور سورة الناس کا شان نزول
۱۷۲	حسد کی وجہ سے یہودی کا جادو کرنا
۱۷۲	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب
۱۷۳	سورة الفلق کا ترجمہ
۱۷۴	ہر ایک آیت پر ایک گرہ کھول دی
۱۷۵	فرائض رسالت میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا
۱۷۵	انبیاء پر جادو چل سکتا ہے
۱۷۶	صبح و شام یہ سورتیں پڑھا کریں
۱۷۷	مرض الوفات میں آپ کی کیفیت
۱۷۸	دشمنوں کے شر سے بچنے کا موثر ذریعہ
۱۷۸	برائی کا بدلہ نہ لو، معاف کر دو

## ﴿حاسد سے پناہ مانگو﴾

تفسیر سورة الفلق (۱)

۱۸۳	تمہید
۱۸۴	پہلی آیت کا مطلب
۱۸۵	چھ ماہ کی رات
۱۸۶	تکلیف دور کرنے والی ذات وہی ہے

صفحہ نمبر	عنوان
۱۸۷	کس چیز کی پناہ مانگتا ہوں؟
۱۸۷	تکلیف سے کوئی انسان خالی نہیں
۱۸۸	تین عالم
۱۸۸	اللہ کی طرف رجوع کرو
۱۸۹	مؤمن اور کافر کے درمیان فرق
۱۹۰	تکلیف اور اندیشہ کے وقت کہو:
۱۹۱	اعوذ باللہ پڑھنا
۱۹۲	خلاصہ

### ﴿سورة الفلق کی تلاوت (۲)﴾

۱۹۵	تمہید
۱۹۶	اس آیت میں ہر چیز سے پناہ آگئی
۱۹۷	اندھیرے سے پناہ مانگو
۱۹۸	حضرت یونس علیہ السلام
۱۹۹	اندھیرے سے پناہ کیوں؟
۲۰۰	گرہ پر پھونکنے والوں کے شر سے
۲۰۱	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اور گرہ ہیں
۲۰۲	حسد کرنے والوں سے پناہ
۲۰۲	حسد کے کہتے ہیں؟

۲۰۳	رشک کرنا جائز ہے
۲۰۳	حافظ ابن حجرؒ کا رشک کرنا
۲۰۴	غیر اختیاری خیال پر گناہ نہیں
۲۰۵	غیر اختیاری خیال کا علاج
۲۰۶	حاسد سے بدلہ نہ لو، معاف کر دو

### ﴿حسد کا علاج﴾

تفسیر سورۃ الفلق (۳)

۲۰۹	تمہید
۲۱۰	حسد کے معنی اور اس کے درجات
۲۱۱	حسد کا دوسرا درجہ
۲۱۱	حسد کا تیسرا درجہ
۲۱۲	حسد کے پہلے دو درجوں کی حقیقت
۲۱۳	دو طریقوں سے اس کا علاج
۲۱۴	دوسرا علاج اس کے حق میں دعا کرے
۲۱۵	لوگوں سے سامنے اس کی تعریف
۲۱۵	ہر شخص کا یہ حال ہے
۲۱۶	حسد کرنا تقدیر پر شکوہ کرنا ہے
۲۱۶	حسد کا تیسرا درجہ
۲۱۷	حسد کی وجہ سے کون ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے

۲۱۸

رشتک کرنا جائز ہے

۲۱۹

حافظ ابن حجرؒ کی دعا

## ﴿سورة الناس کی اہمیت﴾

۲۲۳

تمہید

۲۲۴

سورة الناس کا ترجمہ

۲۲۵

دونوں سورتوں میں تقابل

۲۲۶

سورة الفلق میں ایک صفت اور تین چیزوں سے پناہ

۲۲۷

سورة الناس میں تین صفات اور ایک چیز سے پناہ

۲۲۷

عجیب و غریب اشارہ

۲۲۸

حفاظت پر دلالت کرنے والی صفات

۲۲۹

تین صفات میں عجیب نکتہ

۲۳۰

شیطان کا وسوسہ ڈالنا

۲۳۰

پیچھے ہٹ جانے کا مطلب

۲۳۱

ذکر اللہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے

۲۳۲

خناس کے معنی بہت پیچھے ہٹنے والا

۲۳۳

شیطان کے زہر کا تریاق

۲۳۳

ایک زہریلا پودا اور اس کا تریاق

۲۳۴

گناہ خوبصورت زہریلے پودے کی مانند ہیں

## ﴿خیالات اور وہم کا علاج﴾

۲۳۹	تمہید
۲۴۰	سورۃ کا ترجمہ
۲۴۰	وسوسے کی قسمیں
۲۴۲	دل و دماغ ہر وقت سوچتے ہیں
۲۴۲	دو قسم کے وسوسے
۲۴۳	یہ وسوسہ ایمان کی علامت ہے
۲۴۴	چورمال والے گھر میں آتا ہے
۲۴۵	ان وسوسوں کا علاج
۲۴۶	وسوسہ کی ایک قسم ”وہم“
۲۴۷	اس وہم کا علاج
۲۴۷	حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ
۲۴۸	نماز میں وہم کا واقعہ
۲۴۹	بعض لوگوں کی غلطی
۲۴۹	خود رانی سے گمراہی پیدا ہوتی ہے
۲۵۰	وہم کا دوسرا علاج
۲۵۰	وہم سے زندگی اجیرن
۲۵۱	خلاصہ

## ﴿جادو اور آسب کا علاج﴾

- ۲۵۵ تمہید
- ۲۵۶ وسوسہ ڈالنے والے شیطان اور انسان
- ۲۵۶ شیطانوں کا اجتماع اور کارکردگی
- ۲۵۷ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروادی
- ۲۵۸ شیطان کے چیلے بہت ہیں
- ۲۵۹ شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے
- ۲۶۰ شیطان کے حربے کمزور ہیں
- ۲۶۱ نفس بھی وسوسے ڈالنے والا ہے
- ۲۶۲ نفس کے بہکانے کا علاج
- ۲۶۲ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح بچے
- ۲۶۳ دو کام کرنے چاہئیں
- ۲۶۴ سوتے وقت پڑھ کر دم کریں
- ۲۶۵ مرض الوفات میں بھی دم کرتے
- ۲۶۶ آجکل بدامنی کا دور دورہ ہے
- ۷۷۷ مسجد میں آنے والوں کی چیکنگ کی جائے گی

## ﴿جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے﴾

۲۷۲	میری پناہ مانگو
۲۷۳	قرآن کریم کی دعا رد نہیں ہو سکتی
۲۷۴	حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لی
۲۷۵	جنگ آزادی کا ایک واقعہ
۲۷۶	اس سورۃ میں یہی سکھایا گیا ہے
۲۷۷	نماز حاجت پڑھ کر
۲۷۸	ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے
۲۷۹	حضور نے کبھی تعویذ نہیں دیا
۲۷۹	صحابہ کرام کا تعویذ لکھنا
۲۸۰	ایسے تعویذ حرام ہیں
۲۸۱	تعویذ دینا روحانی علاج نہیں
۲۸۱	تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا
۲۸۱	علاج کا صحیح طریقہ
۲۸۲	عجیب و غریب تعویذ
۲۸۳	تعویذ کی ابتداء

### ﴿سادہ زندگی اپنائیے﴾

۲۸۷	قیامت کی ایک نشانی
۲۸۸	یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے

۲۸۹	دنیا میں کتنے دن رہنا ہے
۲۸۹	معاملہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے
۲۹۰	دل و دماغ پر آخرت کی فکر
۲۹۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان
۲۹۱	میرا دنیا سے کیا کام؟
۲۹۲	گھر کا نقش و نگار علامت قیامت
۲۹۲	یہ تقویٰ کے خلاف ہے
۲۹۲	مکان کا پہلا درجہ
۲۹۳	مکان کا دوسرا درجہ
۲۹۳	مکان کا تیسرا درجہ
۲۹۴	دو بھائیوں کا واقعہ
۲۹۵	گھر میں داخل ہوتے وقت یہ کہو:
۲۹۶	کافر کے باغ کا انجام
۲۹۶	گھر کی نعمت پر اللہ کا شکر
۲۹۷	حضور ساری تکلیفیں جھیل گئے
۲۹۷	امت کے لئے آسانی کے دروازے بند نہیں کئے
۲۹۸	میرے سرکار نے بھی تو ایسی زندگی گزاری
۲۹۹	ان نعمتوں پر شکر ادا کرو
۲۹۹	یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں



۳۰۰	حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر ادا کرنا
۳۰۱	ناشکری کی وجہ سے قارون کا انجام
۳۰۲	حضرت سلیمان کی کیفیت
۳۰۲	اس کی قدر کرو
۳۰۳	ایک ایک نعمت پر شکر
۳۰۳	رات کو سوتے وقت شکر کے الفاظ
۳۰۴	شکر کے اور الفاظ
۳۰۵	شکر کے نتیجے میں فتنہ سے حفاظت
۳۰۶	مکان کا چوتھا درجہ حرام ہے
۳۰۶	لباس میں چار درجے
۳۰۷	کھاؤ بھی من بھاتا، پہنو بھی من بھاتا
۳۰۸	خلاصہ

### ﴿افضل صدقہ کونسا؟﴾

۳۱۱	سب سے افضل صدقہ
۳۱۲	صدقہ میں تاخیر مت کرو
۳۱۲	مرض الموت میں مال کی ملکیت میں کمی
۲۱۳	انسان کے مال کی حقیقت
۲۱۴	صحت میں انسان کی کیفیت

۳۱۴

مال سے محبت کے وقت صدقہ کرو

۳۱۶

قدر و قیمت گنتی کی نہیں

۳۱۶

صدقہ کرنے میں جلدی کرو

۳۱۷

اب یہ مال فلاں کا ہو چکا

۳۱۸

تردد کی صورت میں مشورہ کر لو

۳۱۹

نیکی کے داعیہ کو ٹلاؤ نہیں

۳۱۹

دوسرے سے کوئی حاجت طلب کرنے کا طریقہ

۳۲۰

اللہ سے مانگنے میں اصرار کرو

۳۲۱

حاجت طلب کرتے وقت تعریف مت کرو

۳۲۲

اصرار سے لیا جانے والا مال حلال نہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة"  
(سورۃ نحل: ۱۲۵)

یعنی لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور  
موعظہ حسنہ سے بلاؤ۔

# یہ دنیا چند روزہ ہے

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۴)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ  
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ دنیا چند روزہ ہے

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۴)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنُسْتَعِیْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ  
عَلَيْهٖ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّئٰتِ اَعْمَالِنَا  
مَنْ یَّهْدِیْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ یُّضِلِّهٗ فَلَا هَادِیَّ لَهٗ، وَ  
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا  
وَ سَنَدَنَا وَنَبِیَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ  
تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَتَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا  
كَثِیْرًا كَثِیْرًا. اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝  
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ  
وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِیْمُ،  
وَ صَدَقَ رَسُوْلُهٗ النَّبِیُّ الْكَرِیْمُ، وَنَحْنُ عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ  
الشُّهَدٰیْنَ وَالشُّكْرِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

بزرگان محترم و برادران عزیز! یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی تین آیات ہیں، جو میں

نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور انہی کی تشریح کا سلسلہ کچھ عرصہ

سے چل رہا ہے، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تین بنیادی عقائد کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اسلام کے تین بنیادی عقیدے یہ ہیں (۱) ایک توحید کا عقیدہ، جس کو لا الہ الا اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات میں اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے (۲) اور دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے مختلف پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی (۳) اور تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے، یعنی مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے کئے ہوئے کاموں کے مطابق یا ثواب عطا فرمائیں گے یا سزا دیں گے، تو الحمد للہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف کہ جو ذات رب العالمین ہے تو یقیناً وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔

### انبیاء کی بعثت رحمت کا تقاضہ ہے

اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان ہے، اور اس صفت رحمت سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی اور اس میں انسان کو بھیجا تو اس کی رحمت سے یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان کو اندھیرے میں چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اور اس کو کوئی ہدایت نہ دے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے کام بچنے کے

ہیں، یہی باری تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا تقاضہ تھا کہ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمائیں اور ان کے ذریعہ انسان کو ہدایت دیں، اور یہ بتائیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کون سے کام سے انسان کو فائدہ پہنچے گا، اور کون سے کام سے انسان کو نقصان پہنچے گا، اس کے لئے رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا تیسری آیت ہے مالک یوم الدین ”وہ اللہ جزاء کے دن کا مالک ہے“ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیسری صفت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ روز جزاء کا مالک ہے، یوم الدین کے معنی ہیں وہ دن جس میں حساب و کتاب کے بعد ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اس کو روز جزاء کہتے ہیں، جزاء کے معنی ہیں بدلہ، اچھا ہو یا برا، تو جس دن انسانوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا اردو میں ہم اس کو ”روزِ جزاء“ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کا نام ہے ”یوم الدین“ تو باری تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں روز جزاء کے۔

## پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے

یہاں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے مالک ہیں، آج بھی مالک ہیں، اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نہ ہو اور باری تعالیٰ کی ملکیت میں نہ ہو، ساری بادشاہی اسی کی ہے، قرآن کریم میں ہے:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

”اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی زمینوں کی بھی“ تو مالک تو



آج بھی وہی ہیں۔

ہمیں عارضی مالک بنا دیا گیا ہے

لیکن اس آیت میں اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ اگرچہ حقیقی معنی میں تو آج بھی ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کو بعض چیزوں کا مالک بنا رکھا ہے، روپے پیسے کا مالک بنا دیا، مکان کا مالک بنا دیا، گاڑی کا مالک بنا دیا، دکان کا مالک بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا رکھا ہے، سورہ یسین میں باری تعالیٰ نے فرمایا:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (یس: ۷۱)

”کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں اپنے ہاتھ سے ہم نے پیدا کی تھیں،

لیکن وہ مالک بنے بیٹھے ہیں ان کے“..... تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری ملکیت اور ظاہری تصرف اور قبضہ انسانوں کو دیا ہوا ہے، مختلف چیزوں پر، بادشاہتیں بھی دے رکھی ہیں، کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہے، کوئی شخص کسی ملک کا صدر ہے، کوئی شخص کسی ملک کا بادشاہ ہے، ظاہری طور پر یہ سب ملکیتیں اور بادشاہتیں آج موجود ہیں، لیکن حقیقی ملکیت اور حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، عارضی طور پر اور ظاہری طور کسی نہ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا رکھا ہے۔

ایک دن ظاہری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی

لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ ایک دن وہ آئے گا، جس دن یہ ظاہری ملکیتیں

بھی ختم ہو جائیں گی، یہ ظاہری بادشاہتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس دن کوئی بادشاہ

نہیں ہوگا، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اس وقت مالک تو ایک ہی ہوگا، مالک یوم الدین ”وہ روز جزاء کا مالک ہے“ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت انسان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہو گے، قرآن کریم کہتا ہے:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدَّا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (الانبیاء: ۱۰۴)

جس طرح انسان کو شروع میں پیدا کیا تھا کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، اسی طرح جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعد میں دے دیے جائیں گے، لیکن اس وقت کپڑے نہیں ہوں گے تو انسانوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ جن کپڑوں کو تم اپنی ملکیت سمجھتے تھے آج وہ کپڑے بھی تمہارے پاس نہیں ہیں، فرض کرو اگر کوئی آدمی کتنا ہی غریب ہو، فقیر ہو، فاقہ کش ہو، لیکن کچھ کچھ نہ جسم کے اوپر کپڑا تو پہنا ہوتا ہے، چاہے فاقہ ہی کر رہا ہو، اس کپڑے کا تو مالک ہوتا ہے، لیکن وہاں وہ اس کپڑے کا بھی مالک نہیں ہوگا، ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔

آج کس کی بادشاہت ہے؟

اس وقت باری تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا:

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ .....؟ (المومن: ۱۶)

..... آج کس کی بادشاہت ہے؟.....

یہ لوگ دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے تھے، انسا ولا غیر کے نعرے لگایا کرتے تھے، تکبر اور غرور میں ان کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں، سینے تنے ہوئے تھے، کہاں ہے آج وہ بادشاہ؟ کہاں ہیں آج وہ ملکوں کے سربراہ؟ جو اپنے آپ کو فرعون بنائے ہوئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ خود ہی جواب ارشاد فرمائیں گے:

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المؤمن: ۱۶)

”اللہ ہی کی بادشاہت ہے، جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے“

اس پر کسی کا غلبہ نہیں، وہ سب پر غالب ہے، تو یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس دن مالک تو ایک ہی ہوگا، ظاہری بھی، باطنی بھی، حقیقی بھی، مجازی بھی، ہر طرح کی ملکیت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ ہے مالکِ یوم الدین کے معنی، مالک تو آج بھی وہی ہے، لیکن اس دن ایسا مالک ہوگا کہ یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ملکیت صرف اللہ کی ہوگی، بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔

دنیا کی زندگی بے حقیقت ہونے والی ہے

اس تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیسری صفت بیان فرما کر ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ اے انسان! تو اس دنیا میں زندگی گزار تو رہا ہے اور اسی زندگی کو تو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اسی کی خاطر تیری دوڑ دھوپ ہے، اسی کی خاطر تو سارے جھیلے جھیل رہا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں، اور پتہ ہونا چاہئے ہم تجھے سورۃ الفاتحہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ساری زندگی بے حقیقت معلوم ہوگی، وہ دن ہے روزِ جزاء کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن

اس لئے رکھا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کا بدلہ دیدیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍٰ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ (المومن: ۱۷)

”تاکہ ہر انسان کو بدلہ دیا جائے، ان کاموں کا جو انہوں نے دنیا میں کئے ہیں“ اس لئے ہم نے یہ دن رکھا ہے، کئی جگہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ آخرت جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہ انسان کی بڑی اہم ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر بدلہ کا دن نہ ہو کہ جو ظالم ہے اسے ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے، جو نیک ہے اور متقی ہے اسے تقویٰ کا صلہ نہ دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا، ظالم بھی اور مظلوم بھی، فرمانبردار بھی اور نافرمان بھی، نیک بھی اور بد بھی، سب ایک لاٹھی سے ہانک دیے گئے، دنیا میں ایک آدمی ظلم کرتا رہا اور بدیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، معصیتیں کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، وہ بھی کھاپی کے مر گیا، اور دوسرا آدمی جس بیچارے نے محنت کی اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکا، نیکی کے کام کئے، لوگوں کی بھلائی کے کام کئے، وہ بھی کھاپی کے مر گیا، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں کیا گیا، ایسا نہیں ہوگا، قرآن کہتا ہے:

أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (القلم: ۳۰)

”کیا ہم مجرم لوگوں کو فرمانبرداروں کی طرح بنا دیں؟“ کہ ان کا بھی وہی حشر ہو جو مسلمانوں کا اور فرمانبرداروں کا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے انصاف سے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ سب کو برابر قرار دیدے، ایک جگہ

قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (المؤمنون: ۱۱۰)

”کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے ویسے ہی بیکار تمہیں پیدا کر دیا ہے، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟“ سارا کارخانہ دنیا کا اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اس میں انسانوں کا امتحان مقصود ہے، کون ہے جو ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے؟ اور کون ہے جو ہمارے حکم کے خلاف چلتا ہے؟ جو حکم کے مطابق چلے گا اس کے لئے کوئی صلہ ہونا چاہئے، اس کے لئے کوئی انعام ہونا چاہئے، اور جو ہمارے حکم کے خلاف چلتا ہے، اس کے لئے کوئی سزا ہونی چاہئے، تو اگر آخرت نہ ہو، یہ حساب و کتاب نہ ہو، تو سب بھیڑ بکری برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک دن ایسا ہونا چاہئے جس میں اچھے کام کرنے والوں کو ان کے کام کا صلہ ملے، اور برا کام کرنے والوں کو ان کی برائی کی سزا ملے، اس لئے ہم نے یہ آخرت کا دن رکھا ہے۔

کیا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے؟

یہ بھی قرآن کریم نے جا بجا بتایا کہ تم نے تو اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جیسا کہ کافر کہا کرتے تھے:

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَىٰ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (الحاثیہ: ۲۴)

”بس یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں، اور ہم کو صرف زمانے کی گردش سے موت آ جاتی ہے“ نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بس اپنی دنیا بہتر بنا لوں، چنانچہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لئے جائز

نا جائز، حلال حرام کی تمیز مٹا دیتا ہے۔ بقول شخصے:

م بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

”اے بابر! خوب عیاشی کر لو اس واسطے کہ دوبارہ کوئی زندگی آنے والی نہیں“، جن لوگوں کے دل سے آخرت کی فکر مٹ جاتی ہے، جو آخرت پر معاذ اللہ ایمان نہیں رکھتے، وہ بس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، اسی کے لئے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔

یہ دنیا چند روزہ ہے

لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب آخرت میں پہنچو گے تو وہاں

جب دنیا کا تصور آئے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ:

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلِّغْ (الاحقاف: ۳۵)

وہاں جا کر ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا کی ساری زندگی دن کا ایک گھنٹہ تھی، بس

جب اس دنیا کا تصور آئے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے؟ تو ایسا لگے گا کہ بس دنیا

میں ایک گھنٹہ گزارا ہے، یہ دنیا کی زندگی اتنی مختصر معلوم ہوگی، اس آخرت کی ابدی

زندگی کے مقابلے میں، تو اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ چند روزہ ہے، چالیس سال

جی لئے، بہت جی لئے ساٹھ سال، ستر سال، اسی سال نوے سال، سو سال زیادہ

سے زیادہ، لیکن وہ آخرت کی زندگی لا محدود ہے، جس کی کوئی حد و نہایت نہیں،

وہاں جا کر جب دنیا کا تصور آئے گا تو ایسا لگے گا کہ دن کا ایک تھوڑا سا حصہ گزارا

ہے ہم نے، اور بس ختم ہوگئی، گویا کہ تم اس دنیا کے لئے تو سب دوڑ دھوپ کر رہے

ہو جو ایک گھنٹہ سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن وہ آخرت ابدی زندگی

ہے، اور قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس ابدی زندگی کی بہبود کی طرف

متوجہ کر، لہذا اس آخرت کو بنانے کی فکر کرو۔

## دنیا کے لئے بس اتنا کام کرو

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا:

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا

”دنیا کے لئے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اتنا

کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے“ یہ نہیں کہ سارا کام تم نے تھوڑے دنوں کی زندگی کے لئے تو کر لیا اور آخرت کے لئے کچھ نہیں کیا، تو یہ حقیقت ہے جو قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت میں اس کو واضح فرمایا گیا ہے کہ باری تعالیٰ مالک ہے یوم جزاء کا، یہاں تو کوئی کسی چیز کا مالک بنا بیٹھا ہے، کوئی کسی چیز کا مالک بنا بیٹھا ہے، لیکن وہاں یہ ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، اور تمہارے اعمال ہی ساتھ جائیں گے، اعمال ہی دیکھے جائیں گے کہ کیا اعمال کر کے آئے ہو دنیا میں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، لہذا آج ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس روز جزاء کا تصور کر لو، اور اس کی کچھ تیاری کر لو، اس کے مطابق زندگی گزار لو، یہ ہے پیغام اس تیسری آیت کا، اس میں تھوڑی اور بھی تفصیل ہے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے، انشاء اللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ بیان میں اس کی تفصیل عرض کر دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب وہاں پر لے جائے تو سرخروئی کے ساتھ لے جائے اور اپنی رضا مندی کے ساتھ لے جائے، اور ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کے مقامات رکھے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

# یہ دنیا آخری منزل نہیں

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۵)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم

ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز



مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ  
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ  
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## یہ دنیا آخری منزل نہیں

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۵)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝  
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ  
وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اَمْنُكَ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ،  
وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَ نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ  
الشُّهَدٰئِيْنَ وَ الشُّكْرٰئِيْنَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! کچھ عرصہ سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا بیان چل

رہا ہے، اس سے پہلے تین آیتوں کا بیان ہوا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، پہلی آیت،

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، دوسری آیت، مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، تیسری آیت۔

## پہلی آیت میں توحید کی طرف اشارہ

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی طرف اشارہ ہے کہ جو ذات تمام جہانوں کی پرورش کر رہی ہے اور تمام جہانوں کا انتظام اس نے کیا ہے، وہی اس کی خالق ہے، وہی اس کی مالک ہے، وہی اس کی منتظم ہے، تو ظاہر ہے کہ عبادت کے لائق بھی تنها وہی ذات ہوگی، کوئی اور نہیں، تو الحمد للہ رب العالمین میں توحید کی طرف اشارہ ہے۔

## دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ

دوسری آیت ہے، الرحمن الرحیم، اس میں اسلام کے دوسرے عقیدے یعنی رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لئے پیغمبر بھیجتے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کی تکمیل ہوئی، کیونکہ باری تعالیٰ رحمن و رحیم ہیں، لہذا اس کی رحمت کا یہی تقاضہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا میں اندھیرے میں نہ چھوڑے، بلکہ ان کی ہدایت اور ان کی راہنمائی کا ضرور انتظام کرے، اور ہدایت اور راہنمائی کا انتظام یہی ہے کہ اس نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، جن کے ذریعہ ہدایت کی باتیں اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔

## تیسری آیت میں آخرت کا بیان

تیسری آیت ہے ”مالک یوم الدین“ جس کا بیان چل رہا تھا، اس میں اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے یعنی آخرت کا بیان ہے کہ باری تعالیٰ مالک ہے

اس یوم الدین کا یعنی حساب کے دن کا، جیسا میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مالک تو آج بھی ہے ہر چیز کا، لیکن یہاں اس کائنات میں، اس دنیا میں ظاہری ملکیتیں کچھ انسانوں کو بھی عطا کر رکھی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں اس لباس کا مالک ہوں، میں اس مکان کا مالک ہوں، میں اس گاڑی کا مالک ہوں، تو ظاہری ملکیتیں یہاں بھی موجود ہیں، اور حکمرانی ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہے کہ انسان حکمران ہوتے ہیں، کوئی صدر مملکت ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے۔

ساری حکمرانیاں اور ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں

لیکن مالک یوم الدین فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جو یوم حساب آنے والا ہے، اس دن یہ ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قرآن کریم میں آتا ہے:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ (سورة الانبياء: ۱۰۴)

جیسے ہم نے تمہیں ابتداء میں پیدا کیا تھا، جب تم دنیا میں آئے تھے، کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں تھی، یہاں تک کہ لباس بھی نہیں تھا، ننگے تڑنگے آگئے تھے، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں تھی، کسی چیز کے تم مالک نہیں تھے، جس طرح ہم نے تم کو اس وقت اس طرح پیدا کیا تھا کہ کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں تھی، اسی طرح جب آخرت میں اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی کوئی ملکیت تمہاری نہیں ہوگی، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ سواری اور نہ کوئی اور چیز، تن تنہا چلے آؤ گے، اور یہ جتنی بادشاہتیں نظر آتی ہیں، جتنی حکمرانیاں نظر آتی ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو صدر بنائے

بیٹھا ہے، کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، یہ ساری بادشاہتیں اور حکمرانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی صدر نہیں ہوگا، کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا۔

(سورۃ الزمر: ۱۶)

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

قرآن کریم فرماتا ہے کہ باری تعالیٰ اس وقت آواز لگائیں گے ”بتاء آج بادشاہت کس کی ہے؟“ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے:

(سورۃ الزمر: ۱۶)

لِلّٰهِ الْوٰحِدِ الْقَهَّارِ

”ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے“ تو مالک یوم الدین کے معنی یہ ہیں کہ اس دن ملکیت تن تنہا اللہ ہی کی ہوگی، ظاہری ملکیتیں بھی جو دنیا میں نظر آتی ہیں ختم ہو جائیں گی۔

تمہارے قول و فعل کا حساب ہوگا

قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ میں لوگوں کو یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ ذرا اس دنیا میں دھیان سے رہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تمہارے ہر قول و فعل کا حساب لیا جائے گا، یہ مت سمجھو کہ منہ سے جو بات نکال دی، ہو امیں اڑ گئی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورۃ ق: ۱۸)

انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے اس کو لکھنے والا موجود ہے، آج تو ٹیپ ریکارڈر آگیا، لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آسکتا ہے کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا

ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سب ہمارے یہاں محفوظ ہے۔ اگر جھوٹ بولا، یا غیبت کی، یا برا بھلا کہا کسی کو، یا کسی کا دل دکھایا تو یہ سب باتیں ہمارے ہاں محفوظ ہیں، اور کوئی اچھی بات کہی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، کسی کو آرام پہنچایا ہے، کسی کی مدد کی ہے، وہ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہے، اور ان سب کا حساب ہونے والا ہے، قیامت کے دن سب سامنے آجائے گا۔

وَوَجَلُّوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا (سورۃ الکہف: ۴۹)

”جو کچھ عمل کیا تھا دنیا میں وہ سب تمہارے سامنے آ کر موجود ہو جائے گا“ ساری فلم چل جائے گی کہ دنیا میں کیا ہوا تھا، اور کس وقت پر کیا عمل کیا تھا، اس سب کا حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا، یہ ہے عقیدہ آخرت۔

دنیا سے ایک دن جانا ہے

یہ نہ سمجھو کہ بس دنیا میں جی لئے، جس طرح بھی جی لئے، جیسے کافروں کا یہ کہنا ہے کہ:

مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيٰ (سورۃ الحاثیۃ: ۲۴)

”یعنی بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم یہیں جیتے اور ہم یہیں مرتے ہیں“ یہ دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال، ستر سال، اسی سال، نوے سال، بہت ہوگئی تو سو سال، اور زیادہ ہوگئی ایک سو دس سال یا ایک سو بیس سال، لیکن ایک زندگی ایسی آنے والی ہے، جو ہمیشہ کی ہے اور وہاں جا کر پتہ

لگے گا کہ قرآن کریم فرماتا ہے:

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًىهَا (سورۃ النازعات: ۴۶)

جب قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے، اس کی وسعتیں نظر آئیں گی، تو دنیا میں جتنے دن رہے تھے اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بھی جتنے دن دنیا کے تھے وہ ایک شام تھی، یا ایک صبح تھی، ساری دنیا کی زندگی چند گھنٹے کی نظر آئے گی کہ بس چند گھنٹے دنیا میں رہ کر آگئے، اصل زندگی تو اب ہے، وہ زندگی آنے والی ہے، تو مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دن کی طرف توجہ دلائی ہے۔

### سورۃ الفاتحہ میں رحمت والی صفات

جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنی جو صفتیں بیان کی ہیں، سب رحمت والی صفتیں ہیں، رب العالمین، باری تعالیٰ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رحمن ہے، اس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی زبردست ہے، یہ صفتیں بیان کی ہیں، لیکن غصے والی صفتیں، عذاب والی صفتیں بیان نہیں فرمائیں، کیونکہ باری تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا کہ:

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي

”میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے“ تو یہاں رحمت کی صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن مالک یوم الدین فرما کر توجہ دلا دی کہ رحمت تو بے شک ہے میری بندوں پر، لیکن ذرا خیال رکھنا کہ اگر تم نے دنیا کے اندر کوئی غلط کام کئے تو میں

حساب بھی لینے والا ہوں، اور حساب دینے کے نتیجے میں تم بچ کے نہیں جاسکتے، باری تعالیٰ کے قہر سے، یہاں تو سفارش بھی کام آجاتی ہے، رشوت بھی کام آجاتی ہے، یہاں تو تعلقات بھی کام آجاتے ہیں، لیکن وہاں:

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ حُورِنِهٖ وَّلِيٌّ وَّلَا شَفِيعٌ (سورۃ الانعام: ۵۰)

”اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہاں پر بچانے والا، اور نہ سفارش کرنے والا“ یہ عقیدہ آخرت ہے، جو درحقیقت قرآن کریم ہمارے دلوں میں پیوست کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج تو دیا اور ایسی دنیا میں بھیج دیا جس میں رنگینیاں پھیلی ہوئی ہیں۔

### یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں

لیکن قرآن کریم کے ذریعہ، پیغمبروں کے ذریعہ وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تمہارا مقصد زندگی نہیں ہونا چاہئے، یہ دنیا تو تمہارے سفر کا ایک مرحلہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، لہذا ہر قدم پر یاد رکھو کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، آخرت کا دن، اور میرے بھائیو! درحقیقت یہی عقیدہ آخرت ہے، جو انسانوں کو گناہوں سے، جرائم سے، نا انصافیوں سے، ظلم و ستم سے بچاتا ہے، اگر دل میں آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، جس کو قرآن تقویٰ کہتا ہے، تو اس صورت میں انسان گناہ کے پاس بھی نہیں جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ڈھائے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر نا انصافی کروں گا تو آخرت میں مجھے بہت



سنگین عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ صحابہ کے دلوں میں پیوست فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی باتیں اس طرح تفصیل سے بتائیں کہ ہمیں ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ہم آخرت کو ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنت کو، جہنم کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اول تو گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، اور اگر سرزد ہوتا بھی تو فوراً توبہ کی، استغفار کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمندگی کی توفیق ہو جاتی ہے، صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا۔

## آج کی دنیا جرائم اور ظلم کی دنیا کیوں؟

آج دنیا میں جرائم کا بازار گرم ہے، نا انصافیوں کا بازار گرم ہے، ظلم و ستم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا دھیان نہیں، اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لئے کرتا ہے کہ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ چوری کے نتیجے میں مجھے کتنے زبردست عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ چوری نہ کرتا، کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو کیوں لیتا ہے؟ اس واسطے کہ اس کو یہ فکر ہی نہیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ:

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي كِلَاهُمَا فِي النَّارِ

”رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں جہنم میں ہیں“ اگر

اس بات کا پورا ایمان اس کے دل میں ہوتا، اگر اس بات کا اس کے دل میں دھیان ہوتا تو کبھی رشوت لینے کا اقدام نہیں کرتا، دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے، دوسروں کے ساتھ نا انصافیاں کرنے والے، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے والے، دھوکہ دینے والے، ملاوٹ کرنے والے، یہ سب کام نہ کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ابد ہی کا احساس پیدا ہو جائے، چونکہ صحابہ کرام کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا تو نتیجہ اس کا یہ تھا کہ اول تو گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، اگر بھی غلطی سے ہو گیا تو خود اپنے اوپر سزا جاری کروانے کے لئے حاضر ہو جاتے تھے۔

### ایک خاتون کا سبق آموز واقعہ

دیکھئے! ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آ کر عرض کیا کہ ”طَهِّرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ“ یا رسول اللہ! مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، گناہ کیا ہو گیا ہے، بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں کہ مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ پر سزا جاری کر دیجئے، جو شریعت میں اس عمل کی مقرر ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں، وہ دوبارہ دوسری طرف سے آتی ہیں، پھر آ کر اقرار کرتی ہیں، دوسری مرتبہ بھی رُخ پھیر لیتے ہیں، پھر آتی ہیں، یہاں تک کہ چار مرتبہ اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ! جو سزا مقرر ہے مجھ پر جاری کر دیں، وہ سزا کیا تھی؟ یہ بھی معلوم تھا ان کو کہ پھر مار مار کر سنگسار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، مگر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ! آخرت کے عذاب سے بچنے کے لئے دنیا کا یہ عذاب

جھیلنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے اس عمل سے پاک کر دیجئے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تم نے اقرار کر لیا تو سزا تو تمہارے اوپر جاری ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اور قصور جو کچھ ہوا تم سے ہوا، بچہ سے نہیں ہوا، لہذا میں ابھی تمہارے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتا، واپس جاؤ یہاں تک کہ تمہارے یہاں بچہ ہو جائے، بچہ بھی پھر تمہارے دودھ کا محتاج ہوگا، اس بچہ کو دودھ پلاؤ، اور پھر جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اور دودھ کی ضرورت اسے باقی نہ رہے تو اس وقت دوبارہ میرے پاس آنا۔

### بچے کے پیدائش کا انتظار

وہ خاتون چلی جاتی ہیں، نہ کوئی F.I.R درج ہوئی، نہ کوئی رجسٹر میں نام پتہ درج کیا گیا، نہ کوئی ضمانت طلب کی گئی، چلی جاتی ہیں اور بچہ کی پیدائش کا انتظار کرتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہیں، دو سال تک دودھ پلاتی ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس واقعہ کو ڈھائی سال گزر گئے، اتنے دن گرنے کے بعد تو آدمی کے جوش و خروش میں بھی کمی آ جاتی ہے، وقتی طور پر ندامت کی وجہ سے آدمی کے دل میں جوش ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کسی طرح سزا جاری کرالوں، لیکن ڈھائی سال گزرنے کے بعد یہ ندامت بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور وہ بچہ ماں کے لئے ایک عجیب کشش کا باعث ہے کہ بچہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور دل بھار رہا ہے، اور کسی رجسٹر میں نام درج نہیں ہے، کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں کہ تم آؤ اور اپنے اوپر سزا جاری کرواؤ۔

## اس خاتون کی استقامت

لیکن اس خاتون کی استقامت دیکھئے، ڈھائی سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا اور یہ بچہ میں لے آئی ہوں، اس میں کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اب اس کو میرے دودھ کی حاجت نہیں، اور اب میرے اوپر سزا جاری کر دیجئے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سزا جاری کی، یہاں تک کہ انہوں نے جان دیدی۔

## نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی

جب نمازہ جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ جو خاتون ہیں ان سے تو ایک بدکاری کا گناہ ہوا تھا، تو آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر بے شک اس سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کا دسواں حصہ بھی پورے اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے۔

## یہ آخرت کے عذاب کے خوف کا نتیجہ تھا

آپ اندازہ لگائیے! نہ رپورٹ ہے، نہ ضمانت ہے، نہ کچھ ہے، لیکن اپنے آپ کو خود پیش کر رہی ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ دل میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ سزا مل جائے، تکلیف پہنچ جائے، مجھے گوارا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے

سامنے جب حاضر ہوں تو میرا دامن تمام گناہوں سے پاک ہو، اور مجھے انصاف دینے کا وقت آئے تو میرے پلڑے میں کوئی گناہ باقی نہ ہو، یہ فکر لگی ہوئی ہے، اس فکر آخرت نے جرائم اور نا انصافیوں کا اس طرح سدباب کیا، صحابہ کرام کی سیرتیں اٹھا کر دیکھئے، ایک ایک صحابی روشن ستارہ نظر آئے گا، عدل و انصاف کا، نیکی و تقویٰ کا، اس لئے کہ آخرت کی فکر دل میں سمائی ہوئی تھی، اسی آخرت کی فکر کی طرف سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت ”مالک یوم الدین“ توجہ دلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے روز حساب کا، بے شک رب العالمین ہے، بیشک رحمن ہے، بیشک رحیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ انصاف کرنے والا بھی ہے، لہذا آخرت میں تمہارے سارے اقوال و افعال کا حساب ہوگا، اس وقت کا مالک وہی ہوگا، کوئی وہاں اپنی ملکیت نہیں جتا سکتا، اس کے لئے ابھی سے تیاری کرو، تیاری کیسے کرو؟ اس کا طریقہ اگلی آیتوں میں بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فیتق دی تو انشاء اللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔

﴿وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین﴾

اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۶)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۶)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ  
عَلَيْكَ. وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا  
مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَ  
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا  
وَ سَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ. صَلَّى اللّٰهُ  
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا  
كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞  
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞ مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ  
وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ.  
وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ. وَ نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ  
الشَّاهِدِيْنَ وَالشُّكْرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

تین آیات تین عقیدے

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا بیان کچھ عرصے سے



چل رہا ہے، اور اب تک سورہ فاتحہ کی تین آیتوں کا بیان ہوا ہے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں  
 کہ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تین بنیادی عقیدوں کی  
 طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، الحمد للہ رب العالمین کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ  
 کے لئے ہیں، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے  
 کہ جب وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے تو تنہا وہی ہے جو خدا ہے، تنہا وہی ہے  
 جو معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک نہیں، تو اس سے توحید کا عقیدہ  
 نکلتا ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ ”الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمن و  
 رحیم ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا  
 تقاضہ یہ ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج کر اندھیرے میں نہ چھوڑے، بلکہ اس کو یہ  
 بتائے کہ اس کو اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اسی کام کے لئے اللہ  
 تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھیجے، ان پر  
 کتابیں اتاریں تاکہ ان کے ذریعہ انسان کو بتایا جائے کہ دنیا میں اسے کس طرح  
 زندہ رہنا ہے، لہذا اس دوسری آیت سے رسالت کا عقیدہ نکلتا ہے۔

تیسری آیت ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم حساب کا مالک  
 ہے، اس دن کا مالک ہے جس دن تمام انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا  
 اس میں آخرت کا عقیدہ بیان فرمایا گیا کہ یہ زندگی جس میں تم وقت گزار رہے ہو یہ

ایسا نہیں ہے کہ یہیں جی کر، سو کر، کھا کر اور پی کر معاملہ ختم ہو جائے، بلکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، دائمی زندگی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ تم سے اس دنیا کی زندگی میں کئے ہوئے کاموں کا حساب لیں گے، یہ نہ سمجھو کہ جو تم کھا رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، زبان سے جو بات نکال رہے ہو، وہ ہو میں اُڑ کر فنا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے فرمایا:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ

قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة الغاف: ۱۷)

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے مقرر ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور انسان اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکالے مگر اس کے سامنے ایک نگہبان مقرر ہے جو ہر وقت اس کی بات کو ریکارڈ کرنے کے لئے تیار ہے، جو لفظ اس نے زبان سے نکالا ہے، جو بات کہی ہے، اس کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے، اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ:

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا (بنی اسرائیل: ۷۹)

یعنی جو کچھ عمل کیا تھا سب اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جو کچھ عمل کیا تھا بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک وہ سارے کے سارے تمہارے سامنے آ موجود ہوں گے، اس کی فلم دکھادی جائے گی کہ کیا کیا کرتے رہے ہو؟ جو عمل جمع میں کیا تھا

وہ بھی، اور جو عمل تنہائی میں کیا تھا وہ بھی، سب دکھا دیا جائے گا:

(بنی اسرائیل: ۴۹)

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جیسے اعمال ہوں گے، ویسا ہی انجام بھی ہوگا، جو کچھ یہاں پر ہو گے وہی وہاں پر کاٹو گے، تو یہ آخرت کا عقیدہ ہے، جس کی طرف مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنے قول و فعل کا حساب دینا ہوگا، لہذا اپنا ہر کام کرتے وقت دھیان رکھو کہ کسی وقت اس کا جواب دینا ہے، لہذا اللہ ہی کے احکام کے مطابق اس کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق، اس کے بیان کئے ہوئے آداب کے مطابق اس دنیا میں زندہ رہنا ہے۔

ان سب پر عمل کیسے ہوگا؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا فریضہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا کہ دنیا میں زندہ رہو تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق رہو، حلال طریقے سے رہو، حرام سے پرہیز کرو، فرائض و واجبات بجالاؤ، پانچ وقت نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھو، اگر مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اور جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، رشوت نہ دو، سود نہ کھاؤ، اتنی ساری پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے والوں کے لئے عائد کی ہیں، یا اللہ! یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہم اس کی پابندی کر پائیں گے، اس کا جواب اگلی آیتوں میں ہے:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

یعنی اے پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم ایمان تو لے آئے آپ کی توحید پر بھی، اس بات پر بھی کہ ایک دن مرنے کے بعد آپ کے پاس پیش ہونا ہے، اور اب عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں، بات کسی اور کی نہیں مانیں گے سوائے آپ کے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عبادت آپ ہی کی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو، جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو ہم یہ نہیں کر سکتے، لہذا عبادت تو آپ ہی کی کریں گے، لیکن جب ہم کارزار حیات میں داخل ہوں گے تو ہمیں قدم قدم پر مشکلات محسوس ہوں گی، یا اللہ اس حکم پر کیسے عمل کریں؟ فلاں حکم پر کیسے عمل کریں؟ تو اس کا نسخہ بھی یہی ہے کہ جب کبھی مشکل ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سے مدد مانگو، اور یہ کہو اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

### عبادت کا مفہوم

إِيَّاكَ نَعْبُدُ کے معنی کیا ہیں؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت کے معنی ہیں بندگی، بندگی کو یوں سمجھ لو جیسے غلامی، یعنی یا اللہ ہم تیری ہی غلامی کریں گے، تیرے سوا کسی اور کی غلامی نہیں کریں گے، کیا معنی؟ کہ جب تجھے ہم نے اپنا خالق مانا، اپنا مالک مانا، اپنا پروردگار مانا، اپنا معبود مانا تو

بس تیری ہی ذات ہے جو تہا واجب الاطاعت ہے، جس کی اطاعت، جس کی فرمانبرداری ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے، جس دن یہ کہا تھا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ تو یہ اقرار کر لیا تھا کہ اے اللہ اطاعت اور فرمانبرداری تہا تیرا حق ہے، تیرے سوا کسی کی فرمانبرداری نہیں، تُوَايَاكَ نَعْبُدُ کہنا درحقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آپ ہی کی بات مانیں گے، اور اگر کسی اور نے ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جو آپ کے حکم کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، چاہے وہ کہنے والا بادشاہ ہو، یا سربراہ حکومت ہو، صاحب اقتدار ہو، اپنا کوئی قریبی عزیز ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، باپ ہو، ماں ہو۔

### اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی

اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح تعبیر فرمایا کہ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

ترجمہ: اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص تم پر امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اس کی

فرمانبرداری کرو، جو حکم وہ دے اس کے مطابق عمل کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ

اطاعت معروف یعنی نیکی میں ہے، اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم

کے خلاف ہو، تو پھر اس کی اطاعت نہیں، پھر اس کی فرمانبرداری نہیں ہے، صرف

ان کاموں میں اطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیے ہیں، یا وہ اللہ کے حکم

کے مطابق ہیں، اسی طرح بیوی کو حکم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے، لیکن اگر شوہر کسی

ایسی بات کا حکم دے جو گناہ ہے تو بیوی کے ذمہ اطاعت نہیں ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گی، تمہاری نہیں کروں گی، اولاد کو حکم دیا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو، لیکن اگر والدین ناجائز بات کا حکم دینے لگیں تو اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔

### والدین اور شوہر کی اطاعت میں دھوکہ

یہاں بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو اگر وہ کوئی بات کہیں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، ہمیں ماننی چاہئے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے دعویٰ کے خلاف ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنے لگیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالادست قرار دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیشک والدین کی اطاعت کرو، قرآن کریم میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکہ مکرمہ میں ایسی بہت سی صورتیں پیدا ہوئی تھیں کہ اولاد مسلمان ہو گئی، اور ماں باپ کافر تھے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ بعض جگہوں پر ماؤں نے یہ کہہ دیا بیٹے سے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، اور ہمارے دین میں واپس آ جا، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں کرے گا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوک ہڑتال کر دی، کہ اگر تو واپس نہیں آتا تو بھوک ہڑتال ہے، کھانا نہیں کھاؤں گی، وہ اولاد حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول

اللہ اس مشکل میں پھنس گئے ہیں، ماں باپ یوں کہہ رہے ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ  
حَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا  
(سورة الاحقاف: ۱۵)

ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کی ماں نے اس کو مشقت سے اٹھایا تھا، اور مشقت سے جنم دیا تھا، اور اس کو حمل میں رکھنا، اور اس کو دودھ پلانا تیس مہینے اس مشقت میں ماں نے گزارے ہیں، تو یہ ماں کا حق ہے، کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔

### والدین کی اطاعت کی حد

اس کے بعد دوسری جگہ میں فرمایا:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي  
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  
(سورة العنكبوت: ۸)

بے شک ہم نے حکم دیا ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، لیکن اگر وہ تمہیں زبردستی کریں، اور تمہیں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ اس بات میں ان کی فرمانبرداری مت کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، ان کی خوش آمد در آمد بھی کرتے رہو، ان کی خدمت بھی کرتے رہو، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو حتی الامکان تکلیف پہنچانے سے بھی بچو، لیکن کفر و شرک کے کاموں میں اطاعت ان کی نہیں۔

کرنی، اطاعت اللہ کی ہے، تَوَابَّكَ نَعْبُدُ کے معنی یہ ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیری غلامی کرتے ہیں، کسی اور کی غلامی نہیں کرتے، اگر کوئی شخص اللہ کی غلامی چھوڑ دے، اللہ بچائے العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے (آمین) اللہ کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہے تو ہزاروں انسانوں اور مخلوقات کی اس کو غلامی کرنا پڑتی ہے۔

### اللہ کی غلامی اختیار کر لو

اور جب اللہ کی غلامی اختیار کر لی، پھر سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہیں ہے، اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے:

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے  
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

ایک سجدہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کر لیا، اس کے بعد پھر ہزار سجدوں سے نجات مل جاتی ہے، پھر پیشانی سوائے اس کی بارگاہ کے نہ کہیں جھکتی ہے اور نہ کہیں نکلتی ہے، یہ معنی ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے، تو جب اللہ کا حکم آجائے تو پھر کسی کی اطاعت نہیں، پھر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، اسی کی فرمانبرداری ہے، تو اِيَّاكَ نَعْبُدُ جو ہم ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں۔

یہ جھوٹا اقرار تو نہیں کر رہے ہیں!

ذرا دیکھو یہ ہمارا اقرار کس حد تک سچا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب اللہ



تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہو تو جھوٹ بولتے ہوں، کہ  
یا اللہ! ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں عبادت کر رہے ہیں  
شیطان کی، عبادت کر رہے ہیں خواہشات نفس کی، عبادت کر رہے ہیں مخلوق کی،  
عبادت کر رہے ہیں ناجائز باتوں کا حکم دینے والوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ  
کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی یا اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے  
ہیں، یہ جھوٹا اقرار نہ ہو، ہم میں سے ہر شخص کو گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا چاہئے  
کہ کہیں ہماری عبادت غیر اللہ کے لئے تو نہیں ہو رہی ہے۔

### عبادت کے کیا معنی؟

دیکھو عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے، عبادت  
کے معنی یہ ہیں کہ اس کے سوا کسی کو بھی انسان واجب الاطاعت نہ سمجھے، اور جب  
کہیں نکر او ہو جائے تو اللہ کی بات کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دے اور کسی  
کو نہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا  
عجیب مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے پیدا فرمائی تھی، کہ بری بری  
عادتیں دل میں گھر کی ہوئی تھیں، طبیعت میں جم گئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو  
فوراً ان کو خیر آباد کہہ دیا۔

### شراب کی عادت

دیکھو شراب کی جب عادت کسی کو پڑ جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے، تو اس کو  
چھوڑنا مشکل ہوتا، آج کل تو ہم لوگ کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی پان

تمباکو کا عادی بن جاتا ہے، کوئی نسوار کا عادی بن جاتا ہے، اس کو چھوڑنا کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن شراب کی لت تو ایسی ہے العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہ اگر وہ لگ جائے تو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، شراب کی فطرت میں ہے کہ یہ انسان کو اپنا ایسا محتاج بنا دیتی ہے کہ جب تک اللہ بچائے وہ پی نہ لے اس کو چین نہیں آتا، غالب کہتا ہے:

چھوٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی

### یورپ میں شراب پر پابندی کا نتیجہ

یہ سن ۱۹۲۲ء کی بات ہے، کہ یورپ میں لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ بڑی مضر ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، لوگوں کی صحت کو خراب کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک قانون بنا دیا کہ شراب بند ۱۹۲۲ء میں باقاعدہ قانون نافذ کیا گیا کہ شراب بند، کوئی شراب نہیں پیئے گا، اب قانون تو ہو گیا، اب قانون بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پولیس اس کی نگرانی کرے، اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس کی دیکھ بھال کریں، لوگوں نے پولیس کے سامنے تو شراب پینی چھوڑ دی، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے سامنے چھوڑ دی، لیکن اپنے گھروں میں بھٹیاں بنا لیں، گھروں میں بھٹیاں بن رہی ہے، اور شراب کشی ہو رہی ہے، اور لوگ پی رہے ہیں، پہلے تو کارخانوں میں شراب بنتی تھی، اور کارخانوں میں بننے کی صورت میں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو جاتا تھا، لیکن اب گھر کے اندر بننے لگی، تو اس میں گندگی پیدا ہو گئی، اور

اس میں اور زیادہ مضرتیں پیدا ہونے لگیں، لیکن چھوڑی ایک فرد نے بھی نہیں، کیونکہ قانون کا ڈنڈا انسان کو جمع کے اندر تو گناہ کرنے سے روک سکتا ہے، لیکن جنگل کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں اس کے اوپر کون پہرہ دے گا؟ وہ پہرہ بٹھانے والی چیز تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، جو انسان کو جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی اس کے دل پر پہرے بٹھاتا ہے، اور وہ موجود نہیں تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصہ کے بعد یہ کہہ کر قانون واپس لینا پڑا کہ ہم فیل ہو گئے، ہم شراب بند نہیں کروا سکتے۔

## اہل عرب اور شراب

آئیے! اب عرب کی طرف، جس معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں شراب کا یہ عالم تھا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر ناز کرتے تھے کہ ہم بڑے شراب پینے والے لوگ ہیں، اور اس طرح گھٹی پڑی ہوئی تھی کہ شراب کے لئے عربی زبان میں دو سولفظ ہیں، جو شراب صبح کو پی جاتی ہے اس کا الگ نام، جو شام میں پی جاتی ہے اس کا الگ نام، جو کھجور سے بنائی جاتی ہے اس کا الگ نام، جو انگور سے بنائی جاتی ہے اس کا الگ نام، جو پانی ملا کر پی جائے اس کا الگ نام، اگر اس میں شہد ملا لیا جائے تو اس کا الگ نام، اس میں سرکہ ملا لیا جائے تو اس کا الگ نام، تو دو سو نام ہیں شراب کے، اتنی محبت تھی شراب سے اور شاعر لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں:

إِذَا مَا اصْطَبَحْتُ أَرْبَعًا شَدَّ مِيزِرِي

”جب میں صبح کو چار شراب کے جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو زمین پر میرا ازار گھسٹتا ہوا جاتا ہے، اور یہ عالم تھا کہ جو شخص جتنا زیادہ شرابی ہو، وہ اتنا ہی شریف اور معزز تصور کیا جاتا تھا۔ بہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر گھر شراب پی جا رہی تھی، لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن سارے لوگ شراب پینے میں مبتلاء تھے، اور یہاں تک کہ غزوہ احد کے زمانے تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ کرام جنہوں نے صبح کے وقت شراب استعمال کی تھی، اس کے بعد غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور وہیں شہید ہو گئے، البتہ اس وقت تک کچھ تھوڑی سی خرابیاں بیان کر دی تھیں قرآن کریم نے، فرمایا تھا کہ:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ  
لِلنَّاسِ، وَآثُمُهُمَا اكْبَرُ مِنَ نَفْعِهِمَا

(سورة البقرة: ۲۱۹)

لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتادو کہ اس میں خرابیاں بہت ہیں، اور کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن خرابیاں زیادہ ہیں فائدہ کے مقابلے میں! یہ نہیں کہا کہ حرام ہے چھوڑ دو، فوراً نہیں کہا، ذہن تھوڑا سا بنایا گیا تھا۔

عرب میں شراب کی حرمت کا نتیجہ

لیکن جب حکم آیا کہ:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

(المائدة: ۹۰)

یہ شراب، یہ جو جو تم کھیلتے ہو، یہ سب شیطان کا عمل ہے، گندگی ہے، ان سے پرہیز کرو، جب یہ حکم آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس روز اپنے سوتیلے باپ ابو طلحہ کے گھر میں ایک مجلس میں ساقی بنا ہوا تھا، اور لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ تھے، ان کے گھر میں لوگ جمع تھے، اور شراب کی محفل چل رہی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا، ایک منادی کی آواز آئی جو گلی میں اعلان کر رہا تھا کہ:

آلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ

”سب سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شراب حرام کر دی گئی“

تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز ان صحابہ کرام کے کان میں پڑی تو جس شخص کے ہاتھ میں پیالہ تھا، اور منہ تک پہنچ چکا تھا، اس نے اس میں سے گھونٹ لینا گوارا نہیں کیا، پیالے کو زمین پر پٹخ دیا، اور کہا کہ جتنے منکے ہیں شراب کے سب توڑ دو، اور تین دن تک شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہتی رہی، آپ اندازہ لگائیے کہ ساری زندگی کی عادت، جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل لگ رہا ہے، دل کی خواہش یہ ہے کہ پی لیں، لیکن چونکہ عہد کر چکے تھے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے، تو اپنے نفس کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی خاطر اپنی ستر سالہ عادت کو بھی اس طرح خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا، کسی کے منہ سے پھر اس کا پیالہ

نہیں لگا، جو برتن رکھے ہوئے تھے، اور جو پہلے کی شرابیں رکھی ہوئی تھیں، ان کو بھی بہا کر ختم کر دیا، بیچنا بھی گوارہ نہیں کیا، کہ پیسے ان پر لگے ہوئے ہیں، کسی کافر ہی کو کم از کم بیچ دیں، اور کچھ پیسے کمالیں، نہیں!

ایک صحابی کا سبق آموز واقعہ

جس طرح اہل عرب میں شراب کی عادت تھی، اسی طرح نامحرم عورتوں سے تعلق قائم کر کے بدکاری کا بھی عام رواج تھا، تو ایک صحابی کے ایک لڑکی سے تعلقات تھے، اور جیسا کہ آزاد اور آوارہ لوگوں میں ہوتا ہے، وہ تعلقات جنسی تعلقات کی حد تک پہنچے ہوئے تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے سامنے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کا، تو ایک دن جارہے تھے راستے میں وہی عورت ملی، اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی، تو ان صحابی نے جواب دیا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان اسلام حائل ہو گیا ہے، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا، جو پہلے ہمارے تمہارے درمیان تھے، اس نے اپنی محبت کا حوالہ دیا، اور اپنے عشق کا حوالہ دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی تم سے محبت کی ہے، اور تم سے تعلق قائم کیا ہے، اور میں کیسے تمہارے بغیر زندہ رہوں گی، ان صحابی نے جواب دیا کہ اگر رہنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، لیکن نکاح بھی میں اس وقت تک نہیں کروں گا، جب تک نبی کریم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں کہ غیر مسلم عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، اور سارا واقعہ بتایا، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ

صورت حال پیدا ہوگئی ہے، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ حضور خاموش رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب آئے، کیونکہ اب تک کوئی حکم نہیں آیا تھا، چنانچہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءٌ مِّنْ حَبْرٍ مِّنْ  
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
(سورۃ البقرۃ: ۲۲۱)

”اے مسلمانو! تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مؤمن باندی ایک مشرک آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں پسند آجائے، یہ آیت نازل ہوگئی، انہوں نے جا کر کہہ دیا کہ ایک راستہ تھا میرے اور تمہارے درمیان تعلق باقی رہنے کا کہ نکاح ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اور میں تمہارے ساتھ غیر مسلم ہونے کی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا، لہذا اب میرا تمہارا راستہ کوئی نہیں۔“

## اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز قربان

آپ اندازہ لگائیے! جذبات، خواہشات، کیا کچھ ہوں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد سارے جذبات فنا ہیں، ساری خواہشات قربان ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ یہ اقرار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہے وہ اقرار جو ہم اور آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر کرتے ہیں، تو بھائی اس تقاضے کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہئے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہئے، اور اس کی کوشش کرنی چاہئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

# صرف اللہ سے مانگو

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۷)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز



مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## صرف اللہ سے مانگو

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۷)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهَدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا بیان کئی جمعوں سے

چل رہا ہے، پہلی تین آیتوں کا بیان الحمد للہ ہو چکا، اور چوتھی آیت یعنی ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ کا بیان چل رہا تھا ”ایاک نعبد“ جس کے معنی یہ ہیں یعنی اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی انسان واجب الاطاعت نہ سمجھے، اطاعت واجب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہاں جن لوگوں کی اطاعت کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیدیا، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ

ترجمہ: ”اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو“

تو درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا، وہ بھی اللہ نے ہی دیا، لیکن اطاعت والدین کی ہو، یا کسی حاکم کی، اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حکم نہ دیں، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں، پھر اللہ ہی کی اطاعت ہے، یہ ساری باتیں ”ایاک نعبد“ کے اندر داخل ہیں، اور اسی میں یہ اقرار داخل ہے کہ اے اللہ! میں اپنی پوری زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا، جن کاموں کا آپ نے حکم دیا ہے، وہ بجالاؤں گا، اور جن چیزوں سے روکا ہے، ان سے رکوں گا، یہ ساری باتیں ”ایاک نعبد“ کے اندر داخل ہیں۔

## وَايَاكَ نَسْتَعِينُ کی تشریح

پھر اگلا جمعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑا معنی خیز ہے، اور ہمارے لئے اس میں بڑا عظیم سبق ہے، وہ یہ کہ ”ایاک نستعین“ کہ اے اللہ! ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیا معنی؟ ہم نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے، لیکن عملی زندگی میں اس پر کار بند ہونا ہمارے اپنے بس کا کام نہیں، جب تک کہ آپ کی آپ کی مدد شامل حال نہ ہو ”ایاک نعبد ایاک نستعین“ اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرنے میں آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہمیں استقامت عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دیجئے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا کر ہمیں اور آپ کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ جب کبھی تمہیں ہمارے احکام پر عمل کرنے میں کچھ دشواری محسوس ہو، کوئی مشکل پیش آئے، تو ہم سے رجوع کرو، اور ہم سے کہو کہ اے اللہ! میں آپ کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن دشواری پیش آرہی ہے، میرا نفس مجھے غلط راستے پر لے جا رہا ہے، شیطان مجھے بہکا رہا ہے، ماحول مجھے خراب کر رہا ہے، ملنے جلنے والے مجھے غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، اگر آپ نے میری مدد نہ کی، اگر آپ نے مجھے توفیق عطا نہ فرمائی تو میں بہک جاؤں گا۔

## عظیم نسخہ عظیم سبق

یہ ایک عظیم نسخہ ہے جو دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمادیا کہ ہر وقت ہم سے رجوع کرو، ہم سے اپنی لو لگاؤ، ہم سے مانگو، ہم سے مدد مانگو، ہم

سے توفیق مانگو، جو کچھ ہماری عبادت کے دائرے میں رہ کر تم کرنا چاہتے ہو وہ سب ہم سے مانگو، یہ ایک بہت عظیم سبق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔  
ایسے معاشرے میں کیسے چلوں؟

آج کی دنیا میں جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کی پابندی کرو، شریعت کے احکام پر چلو، واجبات اور فرائض بجلاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان سے اجتناب کرو، تو بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیسے کریں؟ ماحول تو سارا کا سارا بگڑا ہوا ہے، ماحول تو الٹی سمت جا رہا ہے، باہر نکلو تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، اور دفتروں میں جاؤ تو رشوت کا بازار گرم ہے، کسی مجمع میں جاؤ تو وہاں عورتوں اور مردوں کا ایسا اختلاط ہے کہ نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہے، اور سارا معاشرہ الٹی سمت جا رہا ہے، کوئی ایک آدمی اگر سارے معاشرے سے ہٹ کر کوئی کام کرنا چاہے تو نلکو بنا دیا جاتا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں رشوت نہ دوں یا رشوت نہ لوں، نہ لوں تو چلو ٹھیک ہے، نہ دوں تو کام نہیں بنتا، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، سود کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے، پورا بازار سود کے کاروبار سے بھرا ہوا ہے، ناجائز معاملات دن رات ہو رہے ہیں، حلال اور حرام کی فکر نہیں ہے، ماحول پورا غلط سمت میں جا رہا ہے، میں تنہا کیلا اس ماحول میں کیا کروں؟ کیسے چلوں؟ شریعت کے احکام پر کیسے عمل کروں؟

میدانِ حشر کا تصور کرو

میرے شیخ حضرت عارنی قدس اللہ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند

فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر میں تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ ہماری نافرمانی کیوں کی تھی؟ آپ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کیا کرتا؟ آپ نے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا جس میں چاروں طرف معصیتوں کا، گناہوں کا بازار گرم تھا، ماحول خراب تھا، کہیں پر بھی جاتا تو دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا، تو ایسے زمانے میں آپ نے پیدا کیا تو میں مجبور ہو گیا، اور گناہ میں مبتلا ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تم سے یہ کہیں کہ اگر تم کو مشکل ہو رہا تھا، ماحول کے خلاف چلنا مشکل لگ رہا تھا تو ہم سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ ہم سے کیوں نہیں مانگا؟ ہم نے تو پورے قرآن میں جگہ جگہ کہا تھا:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ: ”بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں“

اور تم بھی ایمان لائے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور تم ہر نماز کے اندر یہ کہتے بھی تھے ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ تو یہ بتاؤ جب تمہیں مشکل پیش آرہی تھی تو تم نے ہم سے رجوع کر کے کیوں نہیں مانگا؟ کہ یا اللہ میرے لئے مشکل ہو رہا ہے، ماحول خراب ہے، زمانہ پلٹ چکا ہے، اس ماحول اور اس زمانے میں میرے لئے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے توفیق دیدےجئے اور میری مدد فرمادےجئے، کہ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے

مطابق زندگی گزاروں، ہم سے کیوں نہیں مانگا؟

اس کا کیا جواب ہے؟

بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تم سے پڑھوائی تھی، ہر رکعت میں تم یہ کہتے تھے کہ ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ لیکن عمل کیوں نہیں کیا؟ مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ! مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ مجھے توفیق دیدیجئے، اللہ تعالیٰ سے نیاز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے مانگو، یا اللہ میں پھنس گیا ہوں سود میں، سودی کاروبار میں، مجھے اس سے نکال دیجئے، یا اللہ میں پھنس گیا ہوں فلاں گناہ میں، یا اللہ مجھے اس سے نکال دیجئے، مانگتے رہو، مسلسل مانگو اللہ تعالیٰ سے۔

بے تکلفی سے مانگو

میرے حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں، ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، تو ان سے بے تکلفی سے مانگو، کہ یا اللہ یا تو مجھے توفیق دیدیجئے، ورنہ مجھ سے آخرت میں مواخذہ نہ فرمائیے گا، آخرت میں میری پکڑ نہ فرمائیے گا، میں تو اپنا کام، اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میری حالت درست کر دیجئے، ورنہ آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، مانگو اللہ تعالیٰ سے، لوگ اس کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت عظیم راستہ ہے اپنی اصلاح کا، اللہ تعالیٰ سے آدمی ہر روز بلا ناغہ لڑنے کے ناز کے ساتھ مانگے۔

## یہ دعا کرو

حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کہ انہوں نے کوئی چیز ہمارے لئے نہیں چھوڑی، دعا یہ تلقین فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَ نَوَاصِيْنَا وَ جَوَارِحَنَا بِيَدِكَ ، لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا ،

فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ بِنَا فَكُنْ اَنْتَ وَ لِيْنَا وَ اِهْدِنَا اِلَى سِوَاءِ السَّبِيْلِ

یا اللہ! ہمارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح بھی آپ کے قبضے میں ہیں، اور ہم ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان سب کے مالک آپ ہی ہیں، آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں، تو اے اللہ! اپنے فضل و کرم سے آپ ہی ان کے رکھوالے بن جائیے، اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیجئے، یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا یہ دعا کریں، ایک اور دعا آپ نے بیان فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَاَلْتَنَا مِنْ اَنْفُسِنَا مَا لَا تَمْلِكُ اِلَّا بِهٖ فَاَعْطِنَا مَا يُرِضِيْكَ

اے اللہ! آپ نے ہم سے وہ مطالبے کئے ہیں جن پر ہم عمل آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، لہذا وہ چیزیں دید دیجئے جو آپ کو راضی کرنے والی ہیں، جو شخص باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے، اور اپنی سی کوشش بھی کرتا ہے، اس لئے کہ دعا کرنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آدمی دعا تو کر رہا ہے، اور کوشش چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش پوری کرو، پھر ہم سے دعا



مانگو، کوشش بھی کرے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، تو اس کے بعد ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچالے گا، یا کم از کم مغفرت فرمادے گا۔

### ایک سبق آموز واقعہ

میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جو خود میرے ساتھ پیش آیا، آج سے بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے، جرمنی سے ایک صاحب کا میرے پاس ایک خط آیا، جو پاکستانی تھے، اور جا کر جرمنی میں مقیم ہو گئے تھے، نام بھی مجھے ان کا یاد ہے، عبد اللطیف نام تھا ان کا، خط یہ آیا کہ میں پاکستان سے روزگار کی تلاش میں جرمنی آ گیا تھا، اور اس وقت نہ کوئی دین کا خیال تھا، اور نہ کوئی فکر تھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، بس پیٹ پالنے کی خاطر پاکستان چھوڑ کر جرمنی چلا گیا، اور جرمنی میں جا کر مقیم ہو گیا، وہاں رہتے رہتے میرے ایک لڑکی سے تعلقات ہو گئے، یہ جرمن لڑکی تھی، عیسائی تھی، ہوتے ہوتے تعلقات ایسے بڑھے کہ میں نے اس سے شادی کر لی، دین اسلام کی طرف کچھ خاص فکر نہیں تھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ، لیکن شادی کر لی، شادی بھی ہو گئی، اور بے فکری سے وقت گزرتا رہا، اور بچے ہو گئے۔

### میرے اندر کا مسلمان بیدار ہو گیا

جب میرا بچہ بڑا ہوا، اور پڑھنے لکھنے کے لائق ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی ہے وہ میرے بچے کو عیسائی مذہب کی تعلیم دے رہی ہے، اس وقت اچانک میرے اندر کا مسلمان بیدار ہوا، اور میرے اندر سے غیرت نے مجھے لکارا

کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اور یہ عیسائی بن رہا ہے، اسکو ماں عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے، اس دن سے میرے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اسے روکوں، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تم اسکو عیسائیت کی تعلیم نہیں دے سکتیں، بیوی نے کہا کہ کیوں نہ دوں؟ یہ میرا بھی بیٹا ہے، اور میں جس چیز کو حق سمجھتی ہوں، اور صحیح سمجھتی ہوں، اسی کے مطابق میں اپنے بیٹے کو بھی تعلیم دوں گی، آپکو روکنے کا کوئی حق نہیں، میں نے کہا کہ تمہارا مذہب حق نہیں ہے، ہمارا مذہب حق ہے، اس نے کہا کہ کیوں حق ہے بتاؤ؟ اب جب بات کرنی شروع کی تو اسکو تو بہت معلومات بھی اپنے مذہب کے بارے میں تھیں، اور مجھے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھیں، نتیجہ یہ ہوتا کہ جب بھی میں بحث کرتا تو وہ جیت جاتی، اور میرے پاس جواب نہ بن پاتا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اس کشمکش کی وجہ سے میں تھوڑا سا نماز، روزہ کی طرف بھی متوجہ ہو گیا، لیکن جب بھی بحث کرتا ہوں تو میں اس کو قائل نہیں کر پاتا، وہ میرے بچوں کو خراب کر رہی ہے، عیسائی بنا رہی ہے، خدا کیلئے میری مدد کیجئے، یہ خط میرے پاس آیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ بچا رہ اس مشکل میں مبتلا ہے، ایسی کوئی تدبیر میرے دل میں ڈال دیجئے کہ اسکا مسئلہ حل ہو جائے۔

دو باتوں پر اس کو راضی کر لو

پھر میں نے اس کو خط لکھا میری ایک کتاب ہے عیسائیت کے بارے میں

”عیسائیت کیا ہے“ اردو میں اور انگریزی میں **What is Christianity** کے

نام سے چھپی ہوئی ہے، تو میں نے ان کو خط میں لکھا کہ اس سے آپ خود تو بحث کرنا چھوڑ دو، بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب آپ کو دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو، البتہ اس کو دو باتوں پر کسی طرح راضی کر لو، ایک یہ کہ یہ کتاب بھیج رہا ہوں، اس کا یہ مطالعہ کرے، اور دوسری بات یہ کہ اس سے کہو کہ تم بھی اللہ پر ایمان رکھتی ہو، اور میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تم روز رات کو بیٹھ کر یہ دعا کیا کرو یا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو میں عیسائی مذہب پر قائم رہوں، اور اگر دین اسلام برحق ہے تو اس کی سچائی میرے دل میں ڈال دیجئے، اور اس حقانیت کا قائل کر دیجئے، یہ دعا کیا کرے، اس پر اس کو آمادہ کر لو، تھوڑے دن بعد اس کا خط آیا کہ وہ راضی ہو گئی ہے، اور آپ کی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے، اور ساتھ میں وہ رات کے وقت میں یہ دعا بھی کرتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا، جیسی تھی، ویسی ہی ہے، کوئی میلان پیدا نہیں ہوا اسلام کی طرف، میں نے خط دوبارہ لکھا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، اور اس سے کہو کہ یہ کام کرتی رہے، چھوڑے نہیں، میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو دل میں ڈال دیجئے، وہ کرتی رہی۔

اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا

تیسرا جو خط آیا اس میں اس نے لکھا تھا مولانا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دلیل سے پہچانا ہوگا، میں نے تو اللہ میاں کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نے یہ لکھا کہ یہ کل کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکی کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی امتحان دے رہی تھی، تو اس امتحان کی وجہ سے یونیورسٹی اس کو جانا تھا، میں بھی اس کے ساتھ گیا ہوا تھا، ہم نے

یونیورسٹی کا کام کیا، وہاں سے واپس آرہے تھے، اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اس نے اچانک گاڑی بائیں طرف کنارے کھڑی کر کے روک دی، گاڑی کے اسٹیرنگ کی طرف منہ ڈال دیا اور رونے لگی، میں سمجھا کہ خدا نہ کرے کوئی دل کی تکلیف ہوئی ہے، کوئی اس کو دورہ پڑا ہے جو اچانک گاڑی روکی، اور رونے لگی، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس کو اتنا رونا آ رہا تھا کہ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟

### مجھے مسلمان کر لو

تو اس نے روتے روتے مشکل سے یہ جملہ ادا کیا یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے کسی جگہ لے جا کر ”مسلمان کر لو“ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کہ یہ وہی عورت ہے جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی، اور آج یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لے جا کر مسلمان کر لو، میں نے فوراً گاڑی سنبھالی اور خود ڈرائیو کر کے جو قریب ترین اسلامک سینٹر تھا، وہاں اس کو لے گیا، اس کو کلمہ پڑھایا، دین کی بات سمجھائی، اور مسلمان ہوئی، الحمد للہ اور آج جب رات کو واپس آئے تو رمضان کے دن تھے تو آج ہم سحری میں دونوں اٹھے ہوئے ہیں، اور پہلا دن ہے کہ ہم دونوں روزہ رکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو خط لکھ رہے ہیں، ایک خط اس کا تھا، اور دوسرا خط اس عورت کا تھا، میرے نام اس نے لکھا تھا کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں، کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا کہ جس نے مجھ پر حق کا راستہ کھول دیا، اور اب بتائیے کہ میں آگے کس طرح چلوں؟ یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا۔

## اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں

تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جائے، خاص طور سے اگر ہدایت مانگی جائے، اگر دین پر عمل مانگا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی مانگی جائے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہ فرمائیں، وایاک نستعین کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ راستی دکھا دیا ہے کہ جب کبھی تمہیں دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ معلوم ہو، اس رکاوٹ کا بار بار ذکر کرنے کے بجائے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سے کہو، کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، اور ہم سے مانگو کہ اے اللہ یہ پریشانی پیش آ گئی ہے، آپ اپنی رحمت سے دو فرما دیجئے، یہ معنی ہیں وایاک نستعین کے کہ اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کر کے تو دیکھو، آج ہو یہ رہا ہے پورے معاشرے میں کہ یہ بات تو ہر شخص کی زبان پر ہے کہ زمانہ خراب ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس ماحول میں دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن بس یہ باتیں ہی باتیں ہیں، ان باتوں کے بعد کوئی کوشش اس راستہ پر چلنے کی نہیں کی جاتی، ذہن میں بٹھایا ہوا کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے ہاتھ ہاتھ پر رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرف معاشرہ بہا کر لے جا رہا ہے، اسی طرف بہہ رہے ہیں، نہ کوئی کوشش ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا کوئی اہتمام ہے، کہ اس سے دعا مانگی جائے، اور اس سے توفیق مانگی جائے، راستہ یہی ہے کہ کوشش کرو، اور کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مدد فرماتے ہیں، اور کس طرح توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین

# اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۸)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ

تفسیر سورہ فاتحہ (۸)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُوْلَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا مَّا بَعْدَ فَاْعُوْذٍ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهَدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورہ الفاتحہ کی تشریح اور تفسیر کا بیان کچھ



عرصہ سے چل رہا ہے، اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت یعنی ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ کا مختصر بیان میں نے کیا تھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

### اس آیت کا پہلو

اس آیت کا ایک پہلو تو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ روز حساب کا مالک ہے، جزا و سزا کا مالک ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ ہم اس جزا و سزا کے دن کس طرح کامیاب ہوں؟ اور اس دنیا میں کس طرح ایسی زندگی گزاریں کہ اس یوم حساب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے، تو اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کا ایک مؤثر راستہ یہ بیان فرمایا کہ جب تمہیں دین کے احکام پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی دشواری محسوس ہو تو ہم سے رجوع کرو، اور یہ کہو کہ یا اللہ! ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں، لیکن آپ کی عبادت اور اطاعت کرنے میں دشواریاں پیش آرہی ہیں، مشکلات نظر آرہی ہیں، ماحول دوسری طرف لے جا رہا ہے، لہذا ”ایاک نستعین“ آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی آپ کی صحیح عبادت و اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو، لہذا یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لئے بھی اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو، اس کی کچھ تفصیل میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں عرض کی تھی۔

اللہ ہی سے مدد مانگو

اور اس آیت میں یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی

عبادت کا اقرار کرو تو ساتھ ساتھ اللہ ہی سے مدد مانگو، اسی لئے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی یہ دعا مانگتی ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلَاةِ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ وَ

تَمَامَ رِضْوَانِكَ

”اے اللہ! میں آپ سے مانگتا ہوں کہ میرا وضو بھی آپ کی مرضی کے مطابق کامل ہو، میری نماز بھی آپ کی مرضی کے مطابق کامل ہو، اور اے اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ میری تمام زندگی کے کام آپ کی رضا کے مطابق ہوں“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، تو ایک پیغام اور ایک پہلو تو اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادت اور اطاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے بغیر ممکن نہیں۔

اس آیت کا دوسرا پہلو

اس آیت کا دوسرا پہلو یہ ہے اور وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ”وَايَاكَ نَسْتَعِينُ“ فرمایا، یعنی ہمیں سکھایا کہ یوں کہو، اے اللہ! ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کس چیز میں آپ سے مدد مانگتے ہیں؟ اس کو متعین نہیں کیا، بس مطلق یہ کہا کہ اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، عربی زبان کے قاعدے سے جب کوئی شخص کسی چیز کی تعین نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں مانگتے ہیں، عبادت میں آپ سے مدد مانگتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں بھی آپ کی مدد مانگتے ہیں، آخرت کے ہر کام میں بھی آپ کی مدد مانگتے ہیں۔

## ایک اور نکتہ

درحقیقت اس میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی صفات بیان فرمائی کہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ**، تو رب العالمین کا مطلب یہ تھا کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، انسانوں کے جہاں کا بھی، جنات کے جہاں کا بھی، جانوروں کے جہاں کا بھی، ہر عالم کے جہاں کا پروردگار ہے، اس آیت کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پرورش کر رہا ہے، اور مالک یوم الدین کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی جو آخرت کا مالک ہے اور الرحمن الرحیم جو بیچ میں آیا ہے، اس کا تعلق دونوں سے ہے، دنیا سے بھی، اور آخرت سے بھی، پہلے تو یہ بتا دیا کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ ہمارے حکم سے ہوگا، وہ ہماری مشیت سے ہوگا، ہمارے فیصلے کے مطابق ہوگا، اور ہم ہی کریں گے، اب اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے مدد مانگو، اور کہو **وَايَاكَ نَسْتَعِينُ**، اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دنیا کے ہر کام میں بھی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور آخرت کے ہر کام میں بھی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

## اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ

یہ ایک بہت بڑا عظیم نسخہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے تعلق تمہارا مضبوط ہو اور تم مجھ تک پہنچو تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بھکاری بنا لو، میری بارگاہ کے بھکاری بن جاؤ، کیا

معنی؟ کہ ہر وقت مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو، دنیا کی کوئی ضرورت پیش آئے مجھ سے مانگو، اور آخرت کی کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھ سے مانگو، ہر چیز مجھ سے مانگو، اور دنیا میں تو قاعدہ یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا آدمی ہو اور کتنا ہی سخی اور داتا ہو، لیکن اگر کوئی آدمی اس سے بار بار مانگتا رہے کہ ابھی یہ مانگا، پھر دوسرے لمحے دوسری چیز مانگی، پھر تیسرے لمحے تیسری چیز مانگ لی، اور پھر مانگتا ہی رہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ اکتا جائے گا، کہے کہ بھائی تو تو پیچھے ہی پڑ گیا، ایک چیز پر تو بس نہیں کرتا، تیرے کو یہ بھی دے رہا ہوں، وہ بھی دے رہا ہوں، اس کے باوجود تیرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، تو پھر بھی مانگتا رہتا ہے، تو وہ اس کو دھتکار کر نکال دے گا، لیکن اس کریم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا مانگو مجھ سے میں اتنا ہی تم سے خوش ہوں گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے:

مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔

اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگا، بندے کا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، حدیث میں نبی کریم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ! میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو درست کروا دیجئے، تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی حاجت دنیا و آخرت کی ایسی نہ ہونی چاہئے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مانگ نہ رہے ہوں، اور یہ ایسا عجیب اور

آسان نسخہ بتایا اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔

## ایک نادان بچے سے سبق لو

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مثنوی مشہور ہے، ایک جگہ انہوں نے مثنوی میں فرمایا کہ دیکھو کبھی تم نے چھوٹے بچے کو دیکھا؟ وہ چھوٹا بچہ جس میں سمجھ پوری طرح نہ آئی ہو، وہ ہر کام میں اپنی ماں ہی کو سب سے بڑا کارساز سمجھتا ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آجائے تو ماں ہی کو پکارے گا، امی امی کر کے پکارے گا، یہاں تک کہ اگر وہ گھر سے باہر ہو جہاں ماں پاس نہیں ہے، اور کوئی دوسرا بچہ اس کو مار دے یا کوئی تکلیف پہنچا دے، تو فوراً اس کی زبان پر اپنی امی کا لفظ آئے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ماں اس وقت نہیں سن رہی، لیکن پھر بھی امی کہہ کے وہ پکارے گا، اور فریاد کرے گا ماں سے، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ماں تو ہر جگہ نہیں دیکھتی، ماں ہر جگہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود بچہ ماں کو پکارتا ہے، اور لیکن تم جس خالق کائنات کے بندے ہو، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سن رہا ہے، اس نے کہا:

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ

اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو کیا تم ایک بچے کی طرح بھی نہیں کر سکتے؟ اپنے خالق کائنات سے ایسا تعلق بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو ایک بچہ اپنی ماں سے کر سکتا ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو، اس سے مانگو۔

## ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگو

بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اسے کوئی حاجت نہ ہو، لہذا وہ ساری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے، اور رٹ لگائے رکھے مانگنے کی، آپ گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے، اور گرمی لگ رہی ہے، تو اللہ میاں سے کہو کہ یا اللہ! گرمی لگ رہی ہے، گرمی کی شدت کو دور فرما دیجئے، باہر نکلے گھر جانا ہے، کوئی سواری کی تلاش ہے، تو یا اللہ! آپ مجھے اچھی سواری دلواد دیجئے، سواری میں بیٹھ گئے تو یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دیجئے، گھر پہنچے تو یا اللہ گھر میں داخل ہوں تو اچھا منظر دیکھوں، گھر والوں کو عافیت کے ساتھ پاؤں، کوئی پریشانی کی بات نظر نہ آئے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، جو کام بھی کر رہے ہوں اور جس کام کا آگے ارادہ ہو، اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلسل پکارتے رہو، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو، اس سے تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور اس کے ذریعہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا نزدیک ترین راستہ اختیار کر رہے ہو۔

## مختلف مواقع کی دعائیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر پڑھنے کے لئے دعائی تملقین فرمائی ہیں، کہ مثلاً جب بیدار ہو، سو کر اٹھو تو یہ کہو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

جب غسل خانے میں جانے لگو تو پہلے پڑھو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

یا اللہ! میں آ سے خبیث مخلوقات سے اور نجاستوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فارغ ہو کر واپس آؤ تو کہو:

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَ عَافَانِي

پھر جب مسجد میں جانے لگو فجر کے وقت پورا ستے میں یہ پڑھتے ہوئے جاؤ:  
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَ فِي بَصْرِي نُورًا وَ فِي سَمْعِي نُورًا  
 وَ عَن يَمِينِي نُورًا وَ عَن شِمَالِي نُورًا وَ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَ مِنْ  
 فَوْقِي نُورًا وَ مِنْ أَمَامِي نُورًا اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا وَ اعْظِمْ لِي نُورًا  
 اور مسجد میں داخل ہونے لگو تو کہو:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

مسجد سے باہر نکلو تو کہو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

اور پھر جب اپنے گھر میں واپس آؤ تو کہو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَ

لِحْنًا وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

کھانا سامنے آ جائے تو کہو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي هَذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّةَ

کھانا شروع کرو تو کہو:

بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ

اور کھانا ختم کرو تو کہو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا اَرْوَانَا وَ  
جَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

غرض زندگی کے مختلف مرحلوں میں نبی کریم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔

ایک دعا بھی قبول ہو جائے تو

یہ دعائیں بھی بذات خود ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، دیکھو! جب مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو کیا دعا پڑھیں:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

اے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔

اگر تنہا یہ چھوٹی سے دعا قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں اور رحمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کی طرف کھل گئے تو دنیا و آخرت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے اس کا جو سیدھا نہ ہو جائے، ان میں ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دعا بھی قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، ان دعاؤں کا ایک فائدہ تو یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے

لیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر، انسان اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے، اور اپنا



تعلق مضبوط کر رہا ہے، تعلق مع اللہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا، سارے صوفیاء کرام، سارے اولیاء عظام جس مقصد کے لئے ریاضتیں اور مجاہدات کرتے رہے وہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے، اس کا آسان راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمایا اور ایک زمانے میں میں نے یہیں پر ان دعاؤں کی تشریح عرض کی تھی، شاید سال بھر تک سلسلہ چلا تھا، اب وہ چھپ بھی گئی ہے، میرے جو اصلاحی خطبات ہیں، اس کی تیرہویں جلد میں ان دعاؤں کی تشریحات وغیرہ بھی اس کے اندر آگئیں ہیں۔ بار بار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی تلقین فرمائی وہ کیوں؟ تاکہ بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عملی مظاہرہ پیش کرے، اور کہے کہ یا اللہ ہم ہر بات میں آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی کثرت سے رجوع کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے:

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

(سورۃ الشوری: ۱۳)

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ جسکو چاہتے ہیں منتخب کر کے اپنا بنا لیتے ہیں اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرمادیتے ہیں۔

خلاصہ

بہر حال! سورۃ فاتحہ میں پہلے ہی قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو مجھ سے مانگو، چراغ

گل ہو جائے تو مجھ سے مانگو، بجلی چلی جائے تو مجھ سے مانگو، اگر بھوک لگ رہی ہے تو مجھ سے مانگو، پیاس لگ رہی ہے تو مجھ سے مانگو، سواری کی تلاش ہے تو مجھ سے مانگو، ہر چیز ہر لمحہ اور ہر قدم پر کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اس میں نہ کوئی دشواری نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پیسے لگتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور مانگتا رہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ



# اسلامی بنکاری

اور

## متفقہ فتویٰ کا تجزیہ

کچھ عرصہ پہلے اسلامی بنکاری کے مسئلے پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم پر اعتراضات لگا کر ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا۔ اس فتویٰ کا جواب جامعہ طیبہ کے استاد الحدیث مولانا مفتی ثاقب الدین صاحب نے اپنے بعض رفقاء کے ساتھ مل کر تحریر کیا، جو کتابی صورت میں ”اسلامی بنکاری اور متفقہ فتویٰ کا تجزیہ“ کے نام سے شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہے، یہ کتاب تقریباً ۶۰۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

اپنے قریبی اسلامی کتب خانہ سے طلب فرمائیں۔

رعایتی قیمت انتہائی مناسب  
میمون پبلشرز

محمد مشہود الحق کلیانوی

0313-920 54 97

0322-241 88 20

E-mail : memonip@hotmail.com

# شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۹)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

### تفسیر سورۃ الفاتحہ (۹)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُدِي لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا مَا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهَدِيْنَ وَ الشّٰكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ

آج مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی، راستہ میں ٹریفک جام تھا، اس وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی، تھوڑا سا وقت باقی ہے اور سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کا بیان پچھلے چند ہفتوں سے چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی تلقین فرمائی ہے ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں مضامین کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، اس کے دو پہلو تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔

### اس آیت کا تیسرا پہلو

ایک تیسرا پہلو جو اس آیت کریمہ کے بالکل ظاہری مفہوم سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں درحقیقت یہ تلقین کر رہے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور یہی معنی ہیں لا الہ الا اللہ کے، جب یہ کلمہ پڑھا شہدان لا الہ الا اللہ تو معنی یہ ہوئے ”اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود نہیں مانوں گا“ لہذا عبادت کے جتنے کام ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لئے نہیں ہیں، صرف اللہ جل جلالہ کے لئے ہیں، مثلاً سجدہ ہے، یہ سجدہ ایک عبادت ہے، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کو کیا نہیں جاسکتا، یا نماز ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگی، سجدہ ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا، طواف ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا، لہذا یہ آیت اس بات پر تنبیہ کر رہی ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی ذات اللہ کے سوا کتنی ہی مقدس کیوں

نہ ہو، کتنی ہی قابل عظیم کیوں نہ ہو، لیکن سجدہ اسے نہیں کیا جاسکتا، عبادت اس کی نہیں کی جاسکتی، عبادت صرف اللہ کے لئے ہے۔

یہ شرک کے اندر داخل ہے

لہذا یہ جو ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے قبروں پر سجدے کرنے کا، کہتے ہیں کہ یہ بڑے ولی اللہ تھے، لہذا ہم ان کی قبر کو سجدہ کریں تو یہ عمل اِيسَاكَ نَعْبُدُ کے بالکل خلاف ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا، قبروں کا طواف کرنا، جیسے ہمارے ہاں پیروں فقیروں کے مزارات کے اوپر عام رواج ہے، یہ اس آیت کریمہ کے تحت بالکل شرک ہے، اس لئے کہ عبادت کا کام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے کیا جائے تو یہ شرک کہلاتا ہے، جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں ان کی تعظیم و تکریم اپنی جگہ ہے، ان کا ادب اپنی جگہ ہے، انسان کو ان کا ادب کرنا چاہئے لیکن کوئی بھی عبادت کا کام سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے سامنے نہیں کیا جاسکتا، اس آیت میں ایک تو اس بات کی وضاحت ہے۔

مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے

اس آیت میں جو دوسرا جملہ ہے ”وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ اے اللہ ہم مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں، صرف عبادت کا معاملہ نہیں ہے کہ عبادت اللہ کے لئے کرنی ہے بلکہ مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے ہر معاملہ میں، یہ جو دنیا کے اندر بظاہر نظر آتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں سے بھی مدد مانگتے ہیں، مثلاً بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس گئے، اور اس سے مدد لے رہے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا دواء استعمال



کریں، کوئی مکان تعمیر کرنا ہے تو معمار کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم ہماری مدد کرو، یہ جو دنیا کے اندر ہم مختلف کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں تشبیہ اس بات پر فرما رہے ہیں کہ یہ اسباب جو تم دنیا میں اختیار کر رہے ہو اور ان اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں۔

### شفادینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

لیکن یہ ہر وقت پیش نظر رکھو کہ اصل دینے والا ایک ہی ہے، بیشک بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوا تجویز کی، دوا آپ نے استعمال کی، یہ سب جائز ہے تمہارے لئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ شفاء دینے والی ذات نہ ڈاکٹر کی ہے، نہ حکیم کی ہے، شفاء دینے والی ذات ایک ہی ہے، ایک ہی دوا ہے، ایک ہی بیماری ہے، ایک آدمی کو شفاء ہو جاتی ہے اور ایک کو نہیں ہوتی، ایک آدمی کے لئے ایک دوا کارآمد ہوتی ہے، دوسرے کے لئے کارآمد نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس واسطے کہ دوا بیشک ایک سبب ہے، لیکن اس سبب میں تاثیر پیدا کرنا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے لئے ممکن نہیں۔

### دوا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے

ہمارے ایک کرم فرما دوست تھے، بزرگ تھے، ساری زندگی ڈاکٹری کے شعبے ہی میں گزری، آخر میں ان کی عمر ۷۵ سال ہو گئی تھی، بڑے تجربے کا ڈاکٹر تھے، مختلف ہسپتالوں کے نگران بھی رہے، اور ان کا ذاتی مطب بھی بڑا پُرہجوم ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ فرمانے لگے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ میں کسی کو

دوا دیتا ہوں تو دوا انسان کے جسم میں جانے کے بعد کہیں اور رجوع کرتی ہے، کہیں اور سے پوچھتی ہے کہ کیا اثر کروں؟ فائدہ ہو جائے یا الٹی پڑ جائے، اور جو جواب ملتا ہے اس کے مطابق کام کرتی ہے، اس واسطے ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی تکلیف ہے، وہی دوا ہے، ایک آدمی کو دی تھی فائدہ ہو گیا تھا، وہی دوا اسی بیماری میں دوسرے آدمی کو دی، فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ وہی بیماری پہلے آئی تھی، ایک ہی شخص کو دوا دی تھی فائدہ ہو گیا تھا، چھ مہینے کے بعد وہی شخص ہے، وہی بیماری ہے، وہی تکلیف ہے اور وہی دوا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس **إِنَّاكَ نَسْتَعِينُ** کے ذریعہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جن سے تم ظاہری طور پر مدد مانگتے بھی ہو دنیا میں، تو یہ سمجھ لو کہ اصل میں دینے والے وہی ہیں اور ان کی مدد سے تمہارا کام ہو جائے گا، جب تک ہماری مشیت نہیں ہوگی، جب تک جب تک ہمارا حکم نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی سبب تاثیر پیدا نہیں کر سکتا، تو **إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ** کا ایک پہلو یہ ہے کہ زندگی کا کوئی کام کرنے کے لئے نکلو، یا کسی شخص سے کوئی مدد مانگو، یا کوئی سبب اختیار کرو تو ہر وقت پیش نظر یہ رکھو کہ اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی نہیں ہے۔

گا ہک کون بھیج رہا ہے؟

آپ نے دکان کھول لی، مال لا کر رکھ دیا، خود جا کر دکان پر بیٹھ گئے، لیکن گا ہک بھیجنے والا کون ہے؟ تمہارے اندر طاقت ہے کہ گا ہک کو زبردستی پکڑ کر لے

آؤ؟ گا بہک بھیجنے والا تو کوئی اور ہی ہے، وہ اپنی مشیت سے، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے جس کے دل میں ڈال دے گا وہی شخص تمہارے پاس سامان خریدنے آجائے گا، اس کی مشیت ہوگی، اس کی اجازت ہوگی اور اس کا حکم ہوگا تو گا بہک آکر تم سے مال خریدے گا، اور اگر اس کی مشیت نہیں ہوگی، اس کا حکم نہیں ہوگا تو تم دکان کھولے بیٹھے رہو گے، کوئی آکر پر بھی نہیں مارے گا۔

ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو

لہذا جو کام کرو، جو بھی راستہ اختیار کرو، مدد اسی سے مانگو کہ یا اللہ! میں نے اپنی طرف سے تو اس کا سبب اختیار کر لیا ہے، اور میرے بس میں جتنی کوشش ہے وہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ! کوئی کوشش کارآمد نہیں ہو سکتی، جب تک آپ کا حکم نہ ہو، آپ کی طرف سے تاثیر نہ ہو، اے اللہ! میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، آپ اس کام میں تاثیر پیدا فرمادیتے۔

انشاء اللہ کہنے کا رواج

یہ جو ہم مسلمانوں کے اندر بجمہ اللہ رواج ہے کہ جب کوئی آئندہ کا کام ہونے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انشاء اللہ ایسا ہو جائے گا، قرآن کریم کی تعلیم ہے:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ

(سورۃ الکہف: ۲۳-۲۴)

ترجمہ: کبھی یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا، جب تک یہ نہ کہو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی انشاء اللہ، انشاء اللہ کے معنی ہیں اگر اللہ نے چاہا، یہ اس لئے بتایا جا رہا

ہے کہ تم نے اپنی طرف سے تو ساری کوشش کر رکھی ہے، کہ کل کو میں فلاں کام کروں گا، لیکن وہ کام واقعی ہوتا ہے کہ نہیں یہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اس واسطے اگر کبھی آئندہ کے لئے یا کل کے لئے کوئی بات کہو تو انشاء اللہ کہو، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا، بہت سے ڈاکٹر بھی بغیر انشاء اللہ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دوا ہے، تمہیں اس سے فائدہ ہوگا کہہ دیا، بغیر انشاء اللہ کہے ہوئے، یہ بہت بری بات ہے، کہنا یہ چاہئے کہ انشاء اللہ اس دوا سے تمہیں فائدہ ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، اس دوا کے اندر کیا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں، آخر اس دوا کے اندر تاثیر تم نے پیدا کی تھی کہ فلاں جڑی بوٹی میں، یا فلاں کیمیکل میں یہ تاثیر ہے، تو کیا یہ تم نے پیدا کی تھی؟ ہر چیز میں تاثیر اللہ ہی نے پیدا کی ہے، وہی جب چاہے اس کو روک دے۔

## آگ کو گلزار بنا دیا

وہ چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے

آگ کو حکم دیدیا:

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ (سورة الانبياء: ۶۹)

ترجمہ: اے آگ! تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لئے سلامتی بن جا۔

آگ کو اللہ نے سلامتی کا سبب بنا دیا، اور باغ بنا دیا، اور اگر چاہے تو باغ کو

آگ بنا دے، تو اس واسطے کسی چیز پر بھروسہ نہ کرو، سوائے اللہ جل جلالہ کی تاثیر

کے، اس کی مشیت کے، اس کے حکم کے، کسی اور اور پر بھروسہ نہ کرو، اسی کا نام توکل

ہے کہ آپ اسباب ضرور اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیں، روزگار کی تلاش میں

نکلے ہو، تجارت کے لئے نکلے ہو، اللہ پر بھروسہ کرو، یا اللہ! میری طرف سے جو کرنے کا کام تھا، جو کچھ میرے اختیار میں کام تھا وہ میں نے کر لیا، اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، ہر معاملہ میں کہو کہ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی مؤثر حقیقی مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی کام انجام دینے والا نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اسی لئے یہ تعلیم دی گئی کہ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو سمجھنے کی بلکہ اس کو ہر آن پیش نظر رکھنے کی اور اس کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۰)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں

### تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۰)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَتَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهَدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! پچھلے دنوں میرے سفر کی وجہ سے ناغہ



ہوتے رہے، لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تشریح کا بیان چل رہا تھا اور اس کی چوتھی آیت کے اوپر چند بیانات ہوئے تھے، اور آج بھی اسی کا تکرار کرنا ہے، ذہن میں بات کو تازہ کرنے کے لئے پہلے چار آیتوں کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ ”تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ سب پر رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، جو سزا و جزاء کے دن کا مالک ہے“ یہ تو اللہ جل شانہ کی صفات کا بیان تھا، آگے ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کو یہ کہیں کہ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ چوتھی آیت تھی جس پر میں نے تقریباً پچھلے تین جمعوں میں اس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا تھا کہ اس سے کیا کیا سبق ملتے ہیں، اور ہماری عملی زندگی کے لئے اس سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اسی کا آج تکملہ ہے۔

### دوسرے جملے میں عقیدہ توحید

”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ میں دو جملے ہیں، ایک جملہ ہے ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ کہ اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، اور دوسرا ”وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں، جہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ یہ عقیدہ توحید کا لازمی تقاضہ ہے، جب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا: اشهد ان لا اله الا الله یعنی کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، اسی لئے صرف اتنا

ہی نہیں کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں، شرک ہے، بلکہ وہ سارے اعمال جن میں عبادت کا کوئی پہلو ہوتا ہے، یا عبادت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، یا عبادت کے مشابہ کوئی کام ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لئے جائز نہیں۔

### سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں

مثلاً سجدہ کرنا، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا پیغمبر ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، اس کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے، پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکے گی، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی۔

### سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں

ہاں ایک وقت میں سجدہ صرف عبادت کی علامت نہیں تھی، بلکہ بعض اوقات سجدہ تعظیم کے لئے بھی کیا جاتا تھا، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے آگے سجدہ کرو، تو یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض امتوں میں جائز رہا، لیکن امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں آپ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اب تعظیم کے لئے بھی کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں، کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو، اس کے آگے سجدہ جائز نہیں۔

## قبروں پر سجدہ کرنا شرک ہے

لہذا ہمارے علاقوں میں جو طریقہ چلا ہوا ہے کہ بسا اوقات لوگ قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو قبروں کو سجدہ کرنے کا عمل ”ایاک نعبد“ والی آیت کے بالکل خلاف اور منافی ہے، اللہ بچائے شرک کے قریب پہنچانے والی چیز ہے کہ کسی کو سجدہ کیا جائے، دیکھو! ہمارے یہاں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہاں پر لوگ جا کر سجدہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک ایسے مزار کے پاس تھا تو دیکھا کہ لوگ سجدے کر رہے ہیں، مجھے دیکھ کر کچپی طاری ہو گئی کہ اللہ کے سوا ایک مسلمان کسی اور کے آگے سجدہ کرے! تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صاحب مزار کو سجدہ کر رہے ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا شرک ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تک انہی کے ذریعہ پہنچتے ہیں، اس واسطے ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تک پہنچیں۔

## یہ مشرکین کا عقیدہ تھا

یہ بعینہ وہ بات ہے جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، مکہ کے مشرکین کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا  
(سورۃ الزمر: ۳)

یعنی ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں، وہی بات آج مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ پیشانی اللہ نے صرف اپنے لئے بنائی ہے، یہ کسی

اور کے آگے ٹک نہیں سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے آگے جھکے گی، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی۔

## طواف کی عبادت

اسی طرح بعض اور عبادت کے طریقے ہیں، مثلاً طواف ہے، یہ سوائے اللہ جل جلالہ کے گھر کے کسی اور جگہ کا طواف جائز نہیں، یہاں تک کہ روضہ اقدس کا طواف بھی جائز نہیں، اللہ کے گھر کے طواف کا اللہ نے حکم دیا ہے، کسی مقبرہ پر کسی مزار پر طواف اور کسی بھی چیز کا طواف جائز نہیں، طواف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔

کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں

پھر بعض چیزوں میں شریعت نے اتنی احتیاط سے کام لیا ہے کہ بعض چیزیں جو براہ راست عبادت تو نہیں ہیں لیکن عبادت کے مشابہ بن جاتی ہیں، ان سے بھی منع کیا ہے، مثلاً کسی انسان کے آگے جھکنا کہ رکوع کے قریب پہنچ جائے، یہ منع ہے، بعض لوگ کسی بزرگ کی تعظیم کرنے کے لئے یا ان کے ہاتھ چومنے کی خاطر اتنا جھک جاتے ہیں کہ وہ رکوع کے قریب قریب ہو جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، اس لئے کہ یہ مشابہت پیدا ہو رہی ہے غیر اللہ کی عبادت کی، اس لئے اتنا نہ جھکو کہ غیر اللہ کے سامنے رکوع کے قریب پہنچ جاؤ۔

دوسروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا

طریقہ جس میں ایک آدمی خود تو بیٹھا ہوا ہو، اور دوسرے لوگ اس کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ قیصر و کسرئی اور دوسرے بادشاہوں کی رسم تھی کہ جب وہ کرسی پر بیٹھتے تھے تو وہ خود تو بیٹھے ہوتے تھے اور لوگ ان کے سامنے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، اور اگر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو وہ عبادت کے اور زیادہ قریب پہنچ گئے، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان میں بڑی احتیاط چاہئے، ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم بہت اچھی بات ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے اور بزرگ ہیں، ان کی تعظیم بہت اچھی بات ہے، لیکن تعظیم تعظیم کی حد تک ہو، آگے عبادت جیسی نہ بن جائے، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے عبادت کا شائبہ پیدا ہو، اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، اس لئے فرمایا کہ ”ایاک نعبد“ اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور یہی تو وہ سجدہ ہے کہ مسلمان کی پیشانی جب اللہ جل جلالہ کے آگے ٹکتی ہے تو پھر یہ دنیا کی کسی چیز کے آگے نہیں ٹک سکتی۔

## ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے کہ کیسے نماز پڑھوں، اور کیسے سجدہ کروں، اس

لئے اقبال کہتے ہیں:

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

جب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا عادی ہو گیا، تو پھر اس کو کہیں اور سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو اللہ کے آگے پیشانی نہ ٹیکے، اللہ کے آگے سجدہ نہ کرے، اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں، کس کس کے آگے ہاتھ پھیلا کر پڑتا ہے، کس کس کے آگے خود کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، یہ تو وہ سجدہ ہے کہ ہزار سجدوں سے نجات دے کر ایک ہی خالق اور مالک کی طرف انسان کو پہنچاتا ہے، اس سجدے کے قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔

## ہم تو صبح وشام دوسروں سے مدد مانگتے ہیں

دوسرا جملہ اس آیت کریمہ میں ہے ”وایاک نستعین“ اے اللہ! ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے دنیا کے کاموں میں پتہ نہیں کن کن لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں کہ بھائی ہمارا علاج کر دو، بے روزگار ہو گئے تو کسی آدمی سے مدد مانگتے ہیں کہ مجھے روزگار دلادو، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا تو اس کے اندر انسانوں سے مدد مانگتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، میری مدد کرو، مجھے راستہ بتادو کہ کہاں جاؤں؟ وغیرہ وغیرہ..... تو دل میں خیال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو دنیا میں پتا نہیں کن کن سے دن رات مدد مانگتے رہتے ہیں، پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پانچ وقت نماز میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ایاک نستعین اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، حالانکہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں۔

## دوسروں سے مدد مانگنے کی حقیقت

خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے ”وایاک نستعین“ یہ ایک بہت عظیم حقیقت کا دھیان پیدا کرنے کے لئے فرمایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اصل میں حقیقی مدد اسی سے مانگی جاسکتی ہے جو مدد کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو، اس کے اختیار میں اور اس کی قدرت میں ہو کہ وہ دوسرے کی مدد کرے، وہ مدد یہاں پر مراد ہے، ہم جو دنیا میں مدد مانگتے رہتے ہیں مثلاً بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو درحقیقت یہ ایک سبب کا اختیار کرنا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو، لیکن یہ اعتقاد ہر آن اور ہر لمحہ دل میں ہونا چاہئے کہ جا تو رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اس لئے جارہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کا کام نہیں، شفا دینا اس کے اختیار میں نہیں، اس کی قدرت میں نہیں، ہم اس سے جا کر اس معنی میں مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک سبب بنا دیا ہے۔

### کیا شفاء دینا ڈاکٹر کے اختیار میں ہے؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس یہ طاقت کہاں سے آگئی کہ وہ آپ کو شفاء دے؟ ڈاکٹر کے پاس یہ علم کہاں سے آیا کہ جس سے وہ یہ پہچانے کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ علم بھی تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہوتا تو کسی ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی بیماری کو پہچان سکتا، اور اس کا علاج کر سکتا، اور جو دوا اس نے تجویز کی کہ یہ دوا کھالو،

اس سے تمہیں آرام ملے گا، تو اس دوا میں تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ کیا ڈاکٹر نے پیدا کر دی تھی؟ وہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ لہذا جب کسی ظاہری سبب کو اختیار کرو تو اس وقت دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہونی چاہئے کہ اس چیز کے اندر بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، نہ طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت ہے کہ میری مدد کر سکے، تمام تر تاثیر، طاقت اور قوت اللہ جل جلالہ کی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گا، دوا بھی کھاؤں گا، لیکن مدد اللہ سے مانگوں گا کہ اے اللہ! آپ اس میں تاثیر عطا فرما دیجئے۔

مدد اللہ ہی سے مانگو

بہر حال! جو بھی سبب ہم اس دنیا میں اختیار کرتے ہیں، اس میں صرف سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، حقیقی مدد سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگی جاسکتی، تو تنبیہ یہی جا رہی ہے کہ تم اسباب تو اختیار کرو لیکن ساتھ میں یہ تصور کر لیا کرو کہ یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہیں، جب تک کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والا جس کے ہاتھ میں قدرت اور طاقت ہے وہ تاثیر پیدا نہ کر دے، اس وقت تک تاثیر پیدا نہیں ہوگی، لہذا مدد اسی سے مانگو، دوا لیکن مدد اسی سے مانگو کہ یا اللہ! اپنی رحمت سے اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دیجئے، یا اللہ! باہر نکل تو رہا ہوں روزگار کی تلاش میں، یا اللہ! آپ اپنی رحمت سے نافع روزگار عطا فرما دیجئے، یا اللہ! میں تجارت کے لئے دکان کھول کر تو بیٹھا ہوں، لیکن اس میں گا ہک بھیجنا اور اس میں نفع دینا یہ آپ کی قدرت میں ہے، لہذا آپ ہی عطا فرما دیجئے۔



## حقیقی موثر اللہ ہی ہے

لہذا یہ ساری مددیں جو بظاہر دنیا میں ہم مانگ رہے ہیں، یہ محض اسباب ہیں، لیکن حقیقی مدد سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگی جاسکتی، کبھی یہ اعتقاد نہ کرنا کہ اس دوا میں تاثیر ہے، اس سبب میں تاثیر ہے، تاثیر اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کبھی تاثیر پیدا نہیں ہوگی، زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدے پھیلے ہوئے تھے کہ فلاں چیز میں بذات خود یہ تاثیر ہے، مثلاً فلاں ستارہ نکل آئے گا تو بارش ہوگی، تو ان کے یہاں یہ ایک عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ جس وقت نکلے گا تو بارش ہوگی، اور بارش براہ راست اس ستارہ سے وابستہ ہے، وہ ستارہ بارش بھیجتا ہے۔

## بارش دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر صبح کے وقت نماز فجر کے بعد دیکھا کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس بارش میں ہم انسانوں کے دو فریق ہو گئے ہیں، یعنی ایک فریق وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بارش اس ستارے نے دی، اور ایک فریق یہ کہتا ہے کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی، تو بارش سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن پہلا فریق اس بارش کے نتیجے میں کفر میں جا رہا ہے، شرک میں جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بارش مجھے فلاں ستارہ نے دی ہے، اور دوسرا فریق اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور رحمت پر ایمان

لا رہا ہے، لہذا اس بارش کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، بہر حال جو کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو مانگو اللہ سے کہ یا اللہ! آپ عطا فرمانے والے ہیں، بے شک ظاہری اسباب اختیار کر لو، لیکن دینے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، ظاہری اسباب کو اختیار کرو۔

### ظاہری اسباب بھی صرف زندوں سے

اسی میں یہ پہلو بھی آتا ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں یہ زندوں سے تو اختیار کیے جاسکتے ہیں، آدمی بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس سے مدد لی، اور سبب اختیار کر لیا، لیکن جو دنیا سے جا چکے، فرض کرو کوئی ڈاکٹر مر گیا، وہ بڑا ماہر و حاذق طبیب تھا، اور ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جب دنیا سے چلا گیا تو اب آپ اس سے مدد مانگو، اس سے کہوں ڈاکٹر صاحب میری بیماری کے لئے مدد کر دیجئے، تو یہ ہو نہیں سکتا، اس واسطے کہ وہ دنیا سے جا چکا، جب دنیا میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا تھا، اور اس سے آپ اس معنی میں مدد مانگ سکتے تھے کہ ایک ظاہری سبب ہے، اگرچہ تاثیر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر اس کا کوئی کردار دنیا میں باقی نہیں رہا، اس واسطے اس سے مدد نہیں مانگ سکتے۔

### دنیا سے چلے جانے والے بزرگوں سے مدد

یہی حال اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء اللہ اور بزرگوں کا کہ جب تک وہ زندہ ہیں تو آپ جا کر ان سے دعا کروا سکتے ہو کہ ہمارے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ

ہمیں فلاں بیماری سے نجات دیدے، اللہ ہمیں قرض سے نجات دیدے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا ٹھیک ہے، لیکن جب دنیا سے جا چکے تو اب دنیا سے جانے کے بعد ان سے مانگنا کہ مجھے اولاد دیدو، میرے قرضے اترنے کا انتظام کر دو، میری فلاں بیماری دور کر دو، دنیا سے جانے کے بعد یہ ظاہری سبب کے طور پر بھی اب ممکن نہیں رہا، لہذا جو لوگ جا کر قبروں پر اور مزاروں پر مانگتے ہیں کہ اے داتا! مجھے اولاد دیدے، اے داتا! مجھے روزگار دیدے، یہ سب اللہ بچائے شرک کا شعبہ ہے، اور ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کے بالکل خلاف ہے، تو بزرگانِ دین جب تک زندہ ہیں، ان سے آپ دعا کروالو، ان سے ہدایت حاصل کر لو، اور راہنمائی لے لو، لیکن جب وہ دنیا سے جا چکے تو اب ان کو پکارنا، مثلاً اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے شفاء دیدو، مجھے اولاد دیدو، مجھے روزگار دیدو، تو یہ اب نہیں ہو سکتا، جب تک وہ حیات تھے تو ان کی خدمت میں جا کر دعا کی درخواست کر سکتے تھے، وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مستجاب الدعوات بنایا تھا، ان سے دعا مانگنے کی درخواست کر سکتے تھے، لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو اب ظاہری سبب کے طور پر بھی ان سے مانگنا تو حید کے عقیدے کے خلاف ہے۔

### صرف اللہ سے مانگو

اب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ! مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے، ارے بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور کہہ رکھا ہے کہ

میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں ان کے قریب ہی ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، جب اتنا اعلان کر رکھا ہے تو کہیں اور جا کر مانگنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ دوسرے کے پاس جائے اور مانگے؟ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے سوال کرو، اس سے ہی مانگو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو دے سکے، یہ معنی ہیں ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کہ اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے اس آیت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

# فقہی مقالات

(مکمل ۴ جلدیں)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

کے ۳۷ مقالات پر مشتمل مقبول ترین کتاب

قیمت : =/900 روپے

# اصلاحی مجالس

(۶ جلدیں)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

کی مجالس پر مشتمل اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے لئے بہترین کتاب

قیمت : =/1260 روپے

مہتاب پبلشرز

المنصور

# اپنی کوشش پوری کرو

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۱)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## اپنی کوشش پوری کرو

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۱)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○  
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ  
 صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَ نَحْنُ  
 عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِيْدِيْنَ وَ الشُّكْرِیْنَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

تمہید

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! پچھلے دنوں میرے مختلف سفر کی وجہ سے



بہت ناغے ہوتے رہے لیکن اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا بیان چل رہا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کی کل سات آیتیں ہیں اور چار آیتوں کا بیان پچھلے جمعوں میں ہو چکا ہے، ان میں جو باتیں عرض کی گئیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

پانچویں آیت ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ آج اس کا تھوڑا سا بیان کرنا ہے اس سے پہلی آیت تھی اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ کہنا سکھایا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو اے اللہ ہم آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کیا مانگے؟ اگلی آیت میں سکھلادیا گیا دعایہ مانگو کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ! ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے یہ چھوٹا سا جملہ جس میں صرف تین لفظ ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ لیکن یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں یہ دعا قبول فرمائیں تو دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں یا اللہ ہمیں صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراطِ مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔

سیدھا راستہ کیا ہے؟

سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے سیدھا راستہ وہ ہے جس میں ایچ پیج نہ ہوں، موڑ توڑ نہ ہوں، اور آدمی سیدھا چلا جائے اور جا کر منزل تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں صراطِ مستقیم سیدھی راہ، کوئی موڑ نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی ایچ پیج نہیں، سیدھا چلا جا

رہا ہے جا کر منزل تک پہنچ گیا صراط مستقیم کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہے دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی، دنیا اور آخرت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں صراط مستقیم کی انسان کو ضرورت نہ ہو آخرت کے لیے وہ راستہ چاہیے جو ہمیں سیدھا جنت تک پہنچائے کیوں کہ آخرت کی منزل اللہ جل جلالہ کی رضا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی رضا کا مظہر ہے جنت، ایسا سیدھا راستہ جو انسان کو جنت تک پہنچا دے، دنیا کے کاموں میں بھی ہر کام میں انسان کو سیدھا راستہ یعنی صحیح طریقہ کی ضرورت ہے آپ اگر فرض کرو روزی کمانے کے لئے گھر سے نکلو تو اس کے لیے بھی سیدھا راستہ چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ ہو جو سیدھا اس روزگار تک پہنچا دے، آپ ملازمت کرنے کے لیے جارہے ہوں، یا تجارت کرنے کے لیے جارہے ہوں، یا کاشت کاری کرنے کے لیے جارہے ہوں، کوئی بھی روزگار کا طریقہ اختیار کیا ہو، ہر کام میں ضرورت ہے کہ آدمی ایسا راستہ اختیار کرے جو سیدھا اس کو منزل تک پہنچائے اور دنیا کے ہر کام کو دیکھ لو کہ اس میں صحیح طریقہ اختیار کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے، صحیح طریقہ سے کھائے پیئے، لوگوں سے معاملات کرے تو سیدھے راستے کے معاملات کرے، گھر والوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرے تو صحیح راستے سے کرے، غرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں سیدھا راستہ مطلوب نہ ہو، اگر ہر چیز میں سیدھا راستہ مل جائے تو دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔

لفظ راستہ لانے کی وجہ

یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے لفظ ”راستہ“ استعمال کیا

یعنی اے اللہ صحیح راستے کی ہدایت دے دیجئے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ راستہ کہاں لے جانے والا ہے؟ راستہ کی منزل کیا ہے؟ راستہ تو درحقیقت ایک واسطہ ہوتا ہے اصل مقصود راستے پر چل کر کوئی منزل حاصل کرنا ہوتا ہے، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کہاں کا راستہ، جنت کا راستہ، دنیا کے اندر خوشحالی کا راستہ، راحت و آرام کا راستہ، ان میں کسی چیز کی تعین نہیں کی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہر چیز میں ہر کام میں چاہے وہ دنیا کا کام ہو، یا آخرت کا کام ہو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دیجئے، سیدھا راستہ بچھا دیجئے، اور ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کر دیجئے، تو یہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے سارے مقاصد سمٹ کر آگئے ہیں اس لئے کہا گیا کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے اهدنا الصراط المستقیم سارا قرآن تشریح ہے صراط مستقیم کی، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ عقائد میں سیدھا راستہ کیا ہے؟ عبادات میں سیدھا راستہ کیا ہے؟ معاشرت میں کیا ہے؟ معاملات میں کیا ہے؟ اخلاق میں کیا ہے؟ وہ ساری تفصیلات قرآن کریم نے صراط مستقیم میں بیان فرمائی ہیں تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اهدنا الصراط المستقیم۔

## ہدایت کی دو قسمیں

پھر دوسری بات یہاں پر قابل ذکر یہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں راستہ دکھانا اور ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ آدمی نے زبان سے بتادے کہ دیکھو بھئی! سیدھا راستہ یہ ہے مثلاً کسی کو جانا ہے کسی منزل تک، اب ایک طریقہ

یہ ہے کہ اس کو راستہ بتانے والا یہ بتائے کہ یہاں سے مسجد سے نکلنا، پھر دائیں ہاتھ مڑ جانا، پھر بائیں ہاتھ مڑ جانا، پھر فلاں سڑک ملے گی اس میں چلے جانا، یہاں تک کہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، اب یہ چلنے والے کا کام ہے کہ جو راستہ بتا دیا گیا ہے، اس پر چلتا ہوا چلا جائے، دائیں مڑے، پھر بائیں مڑے، اور جو جو سڑکوں کے نام لئے ہیں، ان سے گزرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب راستہ پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی مجھے صدر کار راستہ بتا دو کس طرح جانا ہے؟ تو وہ بتانے والا اس کا ہاتھ پکڑے اور کہے کہ چلو میرے ساتھ چلو، اور ساتھ لے کر چلے، اس کو بتایا کچھ نہیں زبان سے، لیکن ہاتھ سے پکڑ کر لے چلا اور وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا کہ بھائی دیکھو یہ ہے تمہاری منزل یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے۔

### پہلی ہدایت عام، دوسری خاص

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی پہلی قسم تو ساری انسانیت کے لیے کھول دی ہے، قرآن کے ذریعہ راستہ بتا دیا کہ دیکھو ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ فرائض و واجبات تم پر عائد کیے ہیں، ان کو ادا کرو، جو حرام اور ناجائز کام ہیں، ان سے بچو، اور یہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے چاہے مسلمان ہوں، یا کافر ہوں یا کیسے بھی ہوں، سب کو یہ ہدایت قرآن کے ذریعہ دی ہے۔ اور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی

تعلیمات کے ذریعے، جو شخص راستہ سیکھنا چاہے اور سمجھنا چاہے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا ہوا ہے۔ یہ ہدایت کی قسم ہر ایک کو دے رکھی ہے لیکن یہاں جو دعا کی گئی ہے اس جگہ وہ پہلی قسم کی ہدایت مراد نہیں، بلکہ دوسری قسم کی ہدایت مراد ہے اے اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر لے چلئے، آپ نے بتا تو دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ لیکن اس صراط مستقیم پر چلنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہاتھ پکڑ کر لے چلئے اور لے جا کر ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا کر دیجئے، یہ معنی ہیں اهدنا الصراط المستقیم کے ہمیں صراط مستقیم پر لے جا کر کھڑا کر دیجئے، اور یہ وہ دعا ہے کہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف انداز سے مانگا ہے۔

## ایک اور جامع دعا

ایک دعا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آپ نے فرمایا  
 اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَ نَوَاصِيْنَا وَ جَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا  
 شَيْئًا، فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَكُنْ اَنْتَ وَّلِيْنَا وَ اِهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ  
 السَّبِيْلِ .

(ترجمہ) اے اللہ آپ ہمارے سارے وجود ہماری پیشانیاں ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے دل سب آپ کے قبضے میں ہیں ہم ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں مالک آپ ہی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے بھی مالک آپ، ہماری پیشانیوں

کے بھی مالک آپ، ہمارے پاؤں کے مالک بھی آپ، ہمارے دلوں کے مالک بھی آپ، سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت اور آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے اور آپ ہی ہمیں سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیجئے۔ تو یہ جو دعائیں ہے قرآن کریم نے، صراطِ مستقیم دکھانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہم نے پوری طرح دکھادی مومن، کافر، فاسق، فاجر، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے جو قرآن نے بتادیا اور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا لیکن اے مسلمانوں اب ہم سے مانگو، یا اللہ آپ ہی مجھے اپنے فضل و کرم سے ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر کھڑا کر دیجئے تاکہ ہم منزل تک پہنچ جائیں۔

### تین کام کرو

دیکھو! انسان کا کام تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی طرف سے عزم کر لے اور پکارا ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، دین کے شعبے میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کروں گا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا و اجبات اور فرائض صحیح طریقے سے ادا کروں گا، گناہ سے بچنے کی اور فرائض و واجبات ادا کرنے کی کوشش کروں گا، ایک تو یہ ارادہ کر لو، دوسرے یہ کہ جتنا تمہارے بس میں ہے وہ کوشش کر لو، یہی دو کام کرنے کے بعد پھر ہم کو پکارو کہ یا اللہ! میرے بس میں یہ تھا کہ میں عزم کر لیتا، تو میں نے عزم کر لیا، میرے بس میں تھا کہ میں اتنی کوشش کر لیتا، تو میں نے اتنی کوشش کر لی، اب آپ کو

میں پکارتا ہوں کہ آپ اپنے فضل و کرم سے صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دیجئے، یہ تین کام آدمی کر لے تو بس کامیاب ہے، پہلا عزم و ارادہ اور دوسری اپنی طرف سے کوشش اور تیسرا عزم کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔

## حضرت یوسف علیہ السلام کا طرزِ عمل

دیکھو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، قرآن کریم میں جتنے واقعات آئے ہیں، محض قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس سے سبق دینا مقصود ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ذلیخہ نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی، اور انہیں زبردست آزمائش کا سامنا ہوا، ایک عورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور خود اپنے آقا کی بیوی ہے، چاروں طرف سے دروازے بند کر کے ہر دروازے پر اس نے تالا ڈال دیا، تاکہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے، اور اندر آنے کا بھی کوئی راستہ نہ رہے، اس وقت وہ پیشکش ہی نہیں بلکہ وہ حکم دے رہی ہے کہ آؤ، بدکاری کی دعوت دے رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو زبان سے انکار کیا، لیکن وہ عورت اصرار کرتی رہی یہاں تک کہ اپنی طرف کھینچنے لگی، تو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے چھوٹ کر دروازوں کی طرف بھاگے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ دروازے بند ہیں، دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازہ تک چلا جاؤں، اپنے بس کی حد تک انہوں

نے کوشش پوری کر لی، اور وہاں سے بھاگ کر دروازہ تک پہنچ گئے، اور پھر اللہ کو پکارا: اے اللہ! میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں دروازہ تک پہنچ جاتا، اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا، آگے پھر دروازہ کھولنا اور پھر اس سے بچانا آپ کا کام ہے، آپ راستہ کھول دیجئے، چنانچہ انہوں نے دو کام کئے، ایک یہ کہ عزم کیا کہ یہ کام نہیں کروں گا، اور دوسرے کوشش کی کہ جتنا بس میں تھا دروازہ تک پہنچ جانا، اس سے کوئی کوتاہی نہیں کی، دروازے تک پہنچ گئے، اور پھر اللہ کو بھی پکارا: یا اللہ! بچا لیجئے، جب دروازہ تک پہنچے تو دروازوں کے قفل کھل گئے، تالے ٹوٹ گئے، اور دیکھا کہ ذلیخہ کا شوہر دروازہ پر کھڑا ہوا ہے

تم بھی یہ دو کام کرو

اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لئے بیان کیا ہے کہ سنو! جب بھی تمہیں ایسی صورتحال پیش آئے کہ جس میں تمہارے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، صراط مستقیم سے ہٹنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، اس وقت دو کام کرو، ایک عزم تازہ کرو کہ نہیں میں صراط مستقیم کو نہیں چھوڑوں گا، اور دوسرا جتنی تمہارے بس میں کوشش ہے، وہ کر گزرو، اس کے بعد جب اللہ کو پکارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورت مدد کریگا، تمہیں ضرور صراط مستقیم پر پہنچائے گا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

گر چہ رخنہ نیست عالم را پلید

خیرہ یوسف و ارمی باید دوید



کہ آج اگر تمہیں اپنے ماحول کے اندر کوئی راستہ نظر نہیں آرہا، ماحول میں فسق و فجور کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، کفر و شرک کا دور دورا ہے، اور چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام دروازوں تک بھاگے تھے، تم بھی بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاء اللہ نجات دے دیں گے۔

### اس آیت کے ذریعہ یہ سبق دیا جا رہا ہے

سبق اس آیت کریمہ کے ذریعہ یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو! یہ دعا ہم لوگ سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ وقت ہر نماز میں بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور اهدنا الصراط المستقیم اس کا لازمی حصہ ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت مجھ سے رجوع کر کے صراط مستقیم پر چلنا مانگتا رہے، اس لئے پانچوں وقت ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم سے یہ کلمہ کہلوایا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ رسمی طور پر پڑھ کر گزر جاتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن غفلت کے عالم میں، دھیان کیے بغیر، بس ایک عادت کے تحت پڑھے چلے جاتے ہیں، بسا اوقات یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا، اور کیا نہیں پڑھا، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس دعا کا صحیح لطف ہے، اور اس کا جو صحیح نتیجہ ہے، وہ پوری طرح ظاہر نہیں ہوتا، اگر سوچ سمجھ کر پڑھیں، اور اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ اے

اللہ! مجھے ہاتھ پکڑ کر لے جائیے صراطِ مستقیم پر، تو جب دل سے مانگو گے دھیان سے مانگو گے، اور اہتمام کے ساتھ مانگو گے، دن میں پانچ مرتبہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانو گے، کیا وہ مالک بے نیاز تمہیں رد کر دے گا؟ چھوڑ دے گا، تمہیں شیطان کے حوالے کر دے گا، نہیں! ہرگز نہیں بلکہ ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا، شیطان کے تسلط سے بچائے گا، ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ سبق مل رہا ہے کہ ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراطِ مستقیم مانگتے رہیں، یا اللہ ہاتھ پکڑ کر لے جائیے ہمیں، صراطِ مستقیم پر، جب بھی نماز پڑھے سوچ کر پڑھے کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔

### اس سے پہلے دو چیزیں

مگر دو چیزیں اس سے پہلے ہونی چاہیں، ایک ارادہ کہ ہم واقعی مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراطِ مستقیم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں تو پہلے دل میں خواہش تو پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو، غزم پیدا کرو، اور دوسرے یہ کہ جتنی تھوڑی بہت کوشش ممکن ہے وہ کر گزرو، تو پھر یہ دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن آدمی اگر فرض کر دو دل میں نیت بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں، کوئی دلچسپی بھی نہیں، اور کوئی خواہش بھی نہیں، اور عمل میں کوئی کوشش بھی نہیں، اور پھر مانگ رہے ہیں کہ صراطِ مستقیم دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ چل تو رہا ہے الٹا، اور مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا ہونا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص مشرق کو جا رہا ہو، اور جانتا ہے کہ میں مشرق کو جا رہا ہوں، اور دعا یہ کرے کہ یا اللہ مجھے

مغرب کی طرف پہنچا دیجئے، تو یہ دعا نہیں ہے بلکہ مزاق ہے، اس واسطے کہ تو نے ارادہ کر رکھا ہے مشرق کو جانے کا، اور عمل بھی مشرق کی طرف جانے کا کر رہا ہے، اور قدم بھی اس کی طرف جانے کیلئے بڑھا رہا ہے، اور زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مغرب کی طرف لے جائیں تو یہ مزاق ہے۔

### یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق ہے

اگر فرض کرو دل میں دین کی طرف چلنے کی نیت نہیں ہے، دل میں تو یہ آرزو ہے کہ ہم انگریزوں جیسے ہو جائیں، مغربیت کے سانچے میں ڈھل جائیں، اور سارا عمل بھی اسی جانب کے لئے کر ہے ہو، پھر اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ! تو مجھے صراحتاً مستقیم دیدے، تو یہ دعا نہ ہوئی مزاق ہوا، ہاں دل میں ایک مرتبہ پختہ نیت تو پیدا کر لو کہ میرے لئے دین و دنیا کی فلاح کا جو بھی راستہ، جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں اس کے اوپر چلنا چاہتا ہوں، اور اس کی طرف قدم بھی بڑھاتا ہوں، ہاں مشکلات آرہی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ! مشکلات دور کر دے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ توفیق ہوگی، اور مدد آئے گی، اور زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو مانگنے، اور صحیح طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

# اللہ کی طرف رجوع کرو

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۲)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ مبین

مبین اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## اللہ کی طرف رجوع کرو

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۴)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَبَارَكْ وَسَلَّم تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا مَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهَدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! پچھلے جمعہ میں نے سورۃ فاتحہ کی پانچویں

آیت ”اهدنا الصراط المستقیم“ کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کی پہلی تین آیتیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کے بیان میں ہیں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ کو سکھایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ ”ایاک نعبد وایاک نستعین“ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

### اللہ سے صراط مستقیم مانگئے

پھر پانچویں آیت ”اهدنا الصراط المستقیم“ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دیجیے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم تک لے جائیے، یہ دعا سکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ تم زندگی کے ہر مرحلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کی عادت ڈالو، اسی سے مانگو صراط مستقیم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو دنیا و آخرت کے ہر مقصد کیلئے ضرورت ہے، جب بھی تمہیں کوئی کشمکش پیدا ہو، یا جب بھی تمہارے سامنے دو راستے آئیں، تو ہمیں پکار کر کہو: اهدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آدمی کو دنیا کے

کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔

## ٹیزھی مانگ کے لئے تعویذ

مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، ایک عورت ان کے پاس آئی اور آکر کہنے لگی کہ حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں سر کے بال بناتی ہوں، تو میری مانگ ٹیزھی ہو جاتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی، بہت کوشش کی کہ سیدھی مانگ نکل جائے، لیکن سیدھی مانگ نہیں نکلتی، ٹیزھی ہو جاتی ہے، مجھے ایسا تعویذ دیدیتجئے، جس سے مانگ میری سیدھی ہو جایا کرے، بہت سی خواتین کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا کے ہر کام کا تعویذ الگ ہوتا ہے، اور ہر کام کیلئے وہ تعویذ کی فکر میں رہتی ہیں، اس اللہ کی بندی کے دل میں یہ خیال آگیا کہ میری مانگ ٹیزھی نکلتی ہے، اور سیدھی نہیں ہوتی، حضرت سے درخواست کی کہ آپ میرے لئے کوئی تعویذ ایسا بنا دیتجئے، حضرت نے کہا کہ بھی مانگ سیدھی کرنے کا کوئی تعویذ میرے علم میں تو ہے نہیں کہ کوئی تعویذ ایسا ہوتا ہو جس سے مانگ سیدھی ہو جائے، مگر وہ پیچھے پڑ گئی، نہیں نہیں، آپ تو بزرگ آدمی ہیں کوئی ایسا تعویذ نکالئے جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور میری مانگ سیدھی ہو جائے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ خاتون پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے، اور اسے پریشانی بھی ہے، تو میرے کچھ تو سمجھ میں آیا نہیں، میں نے ایک پرچی پر قرآن شریف کی آیت، اهدنا الصراط المستقیم لکھ دی، اور کہا کہ تم اس کو سر پر لگا لیا کرو، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سے مانگ سیدھی



نکلنے لگی، حضرت نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہر چیز میں صراط مستقیم چاہئے، سیدھا راستہ چاہئے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مراد پوری کر دے، حضرت کا خلوص بھی تھا، اور ان کی بزرگی اور برکت بھی تھی، اور آیت کریمہ کا مفہوم بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا اسی سے کام نکال دیا، غرض یہ کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جس میں سیدھا راستہ مطلوب نہ ہو، اس آیت کے ذریعہ سکھایا یہ ہے کہ ہر چیز ہم سے مانگو، ہم سے صراط مستقیم مانگو، اور جب کبھی الجھن پیش آئے تو ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اور یہ بہت بڑی عظیم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔

آج کے دور میں ہم کس طرح عمل کریں؟

دیکھئے! آج ہم سب لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں، جس میں چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم ہے، آدمی باہر نکلتا ہے تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، حالات خراب ہیں، دین پر اگر کوئی چلنا بھی چاہے تو قدم پر رکاوٹیں ہیں، آج معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرنا چاہے تو عام طور سے اس کے راستے میں بڑے بڑے روڑے اٹکائے جاتے ہیں، بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کرنے والوں سے پوچھو کہ اگر کوئی سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنا چاہے تو رکاوٹیں ہیں، اور قدم قدم پر لوگ حرام کاری کیلئے منہ

کھول کر بیٹھے ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، دھوکے کا بازار گرم ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہے، پتہ نہیں کتنے تاجر حضرات میرے پاس آتے ہیں کہ اگر ہم صحیح صحیح لکھ دیا کریں کہ کتنے میں ہم نے مال منگوایا ہے، اس کا بل صحیح بنوالیں تو ہم تجارت کرنے نہیں سکتے، اس لئے ہمیں جھوٹے بل بنوانے پڑتے ہیں، غرض یہ ہے کہ ہر طرف گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے اور کبھی کبھی ہمارے بھی دل میں اور سب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کیسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں؟ اور اس ماحول کی خرابی کی وجہ سے پھر سوچتے ہیں کہ یہ تو اس دور میں ہمارے لئے ممکن نہیں رہا کہ ہم دین کے اوپر قائم رہیں، اس واسطے لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔

### اللہ کے دربار سوال و جواب

میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ چلو یہ جو تم عذر پیش کر رہے ہو کہ بھی ماحول خراب ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، فسق و فجور کا بازار گرم ہے، ذرا تھوڑا سا تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے باز پرس کر رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے دین پر کیوں عمل نہیں کیا تھا؟ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ غیبت کیوں کی تھی؟ دھوکہ کیوں دیا تھا؟ لوگوں کو فریب کیوں دیا تھا؟ آنکھوں کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ کانوں کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ زبان کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ تو تم اس کے جواب میں یہ کہتے ہو یا اللہ میں کیا کرتا؟ آپ نے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا

جہاں چاروں طرف فسق و فجور کی دھوکے بازی کی، رشوت کی آگ سلگ رہی تھی، میں کیا کرتا؟ اگر آپ نے مجھے صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو میں بھی نیک بن جاتا، لیکن آپ نے ایسے دور میں پیدا کیا جہاں چاروں طرف بددینی کا بازار گرم تھا، میں بھی اس ماحول سے متاثر ہو گیا، میں کیا کرتا؟ میں کمزور اور مجبور انسان ہوں، میں مغلوب ہو گیا۔

### ہم سے رجوع کیوں نہیں کیا؟

اس کے جواب میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھیں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین پر چلنے میں رکاوٹیں آرہیں تھیں، اور مشکلات آرہی تھیں تو مجھ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے مانگتے کہ یا اللہ! یہ دشواری ہو رہی ہے، آپ کے حکم پر عمل کرنے میں آپ مجھ سے یہ دشواری دور کر دیجئے، تم نے مجھ سے مانگا ہوتا، اور کہا ہوتا "ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم" مجھ سے مانگا ہوتا، سارا قرآن بھرا ہوا ہے اس بات سے، اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، تو مجھ سے تم نے یہ سارا حال کیوں ذکر نہیں کیا اور کیوں نہیں پوچھا؟ میں اس پر کیسے عمل کروں؟ اپنی رحمت سے میرا رستہ ٹھیک کر دیجئے، اب بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کہا ہوتا کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میں مجبور ہو رہا ہوں، میرے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ اپنی رحمت

سے مجھے بچا لیجئے، آپ میرے راستے کی رکاوٹیں دور کر دیجئے، بلکہ ہمارے شیخ تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بن کر باتیں کیا کرو، یا اللہ! یا یہ رکاوٹیں دور کر دیجئے، ورنہ مجھ سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مجھ سے گرفت نہ فرمائے گا، رکاوٹ دور کر دیجئے، تو اگر کوئی بندہ یہ کرتا رہے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یا تو رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسکو معذور قرار دیدینگے، تو اس واسطے یہ سکھایا ہے سورہ فاتحہ میں کہ جہاں بھی تمہیں دشواری پیش آئے تو ہمیں پکارو۔

### حضرت یونس علیہ السلام نے کس طرح رجوع کیا؟

دیکھو! حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ آزمائش پیش آئی تھی کہ ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب اندازہ کیجئے کہ ایک جیتا جاگتا انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں جو کچھ پریشانی ہے وہ تو ہوگی، پھر اندھیرا، ماحول میں تاریکی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تو قرآن کریم فرماتا ہے: فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں پکارا، اے اللہ! آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں ہر عیب سے، اور میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں، اور زبان سے تو اپنی غلطی کا اور اپنے ظلم کا اعتراف فرمایا اور پکارا کہ آپ معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اگر میں مچھلی کے پیٹ میں گیا ہوں تو بھی آپ کی مشیت سے گیا ہوں، اور نکلوں گا تو

بھی آپ کی مشیت سے ہی نکلوں گا، اب بتاؤ اگر انسان بڑی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، کوئی ہے جو اس کو بچا سکے، کوئی صورت باہر آنے کی نہیں تھی، کوئی اگر مدد کرنا بھی چاہتا کہ ان کی مدد کرے تو مدد کرنے کی قدرت نہیں تھی، حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پکارا اللہ تعالیٰ کو اور کہا: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ ہم نے ان کی پکار سنی، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، پکارتے رہے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ رکھی، ظاہر ہے کہ پکارنا پہلے ہی شروع کر دیا ہوگا اس حالت میں لیکن مدد آئی کچھ دیر کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ نکل دو ایک کنارے پر: فَانجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ کی گھٹن سے نجات عطا فرمائی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں گھٹن لاحق ہو گئی تھی، ان سے ان کو نجات عطا فرمائی۔

اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں

قرآن کریم نے اس کے بعد فرمایا: وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، یہ کیا فرما دیا؟ کہ اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن اس طرح مچھلی کے پیٹ میں جائے گا، اور اس کو نجات دیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی تم تاریکیوں میں گھر جاؤ، چاروں طرف سے تم پر اندھیرا مسلط ہو جائے، اور ہر طرف سے تمہیں مایوسی

ہونے لگے تو ہمیں اس وقت پکارو تو ہم تمہیں نجات دیں گے، ہم تمہیں نجات کے راستے پر لے جائیں گے۔

مایوس مت ہو جاؤ

میرے بھائیو! اس آیت نے بھی سبق دے دیا، اور ”اهدنا الصراط المستقیم“ نے بھی کہ میرے بندو! گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، کہ حالات کی خرابی سے مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، اور سمجھو کہ کوئی راستہ نہیں رہا، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ مجھے پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں پکارو، ہم سے مانگو۔

چالیس روز تک یہ دعا کرو

اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے ہر روز بلا ناغہ، کوئی دن خالی نہ جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ! میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، ماحول دوسری طرف مجھے لے جا رہا ہے، اے اللہ! اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس ماحول کی خرابی سے بچا لیجئے، اور اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یہ مانگو یہ ایسا عمل ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی آدمی چالیس دن یہ عمل کرے، دل لگا کر مانگے، خشوع کے ساتھ مانگے، مانگنے کی طرح مانگے تو فرماتے ہیں کہ چالیس دن عمل کر کے دیکھ لو انشاء اللہ چالیس

دن بعد اس کو دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو توفیق ہوگی، اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا، خوشگوار انقلاب، اطمینان کا انقلاب انشاء اللہ آئے گا، لیکن کر کے تو دیکھو!

## دنیا کی فکرات میں مدہوش ہیں

ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کی سوچ بچار اور دوڑ دھوپ کا محور یہ دنیا ہی دنیا بنی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم پیسہ زیادہ کمالیں، کس طرح ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، کس طرح ہمارا مکان اچھا ہو جائے، کس طرح ہمیں گاڑی اچھی مل جائے، ساری سوچ بچار کا دوڑ دھوپ کا محور بس دنیا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آخرت کی زندگی میں ہمارا کیا حشر ہونا ہے؟ اس کی فکر بہت کم ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی ماحول خراب ہے، لہذا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، اور کچھ کرو نہیں، جیسے زمانہ بہہ رہا ہے، اسی کے بہاؤ پر تم بھی بہو، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تم بھی بولو، لوگ رشوت کھا رہے ہیں، تم بھی کھاؤ، اسی بہاؤ پر گزرتے ہوئے ساری زندگی گزر جائے گی۔

## روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر لیا کرو

قرآن کہتا ہے کہ خدا کے لیے ذرا سوچو، اور کچھ نہیں یہی کام کر لو، اس میں کوئی لمبی چوڑی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، وہ یہ کہ روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر چند منٹ دعا کیا کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، راستہ کس طرح کھلتے ہیں، میں

نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے، خود تجربہ کیا ہے، کیسے کیسے لوگ جو آکر شکایت کرتے تھے کہ ہمارے اوپر دروازے بند ہیں، رحمت کے دروازے بند ہیں، انصاف کے دروازے بند ہیں، اور دین کے اوپر چلنے کے دروازے بند ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، ان کو راستہ بتایا، انہوں نے عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے دروازے کھول دیے، تھوڑی سی قربانی دینی پڑی، لیکن قربانی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے اپنے دروازے کھول دیئے، اور پہلے سے زیادہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

دھیان سے یہ الفاظ پڑھو

جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ الفاظ پڑھتے ہیں: اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. ذرا دھیان کر کے پڑھا کریں کہ ہم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، واقعی ہدایت مانگ رہے ہیں، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، یہ دھیان کر کے پڑھیں، الگ بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور روز کا معمول بنالیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دروازے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ یہ شیطانی اور طاغوتی چکر جو دنیا بھر میں چل رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے میں قدرت نہیں رکھتا؟ کیا ان کا بندہ اگر مانگے گا تو وہ راستے کو کھولیں گے نہیں اپنے بندے کیلئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ



رب العالمین ہم ہیں، رحمن ہم ہیں، رحیم ہم ہیں، مالک یوم الدین ہم ہیں، یہ سب کچھ ہم ہیں، پھر بھی تم کہیں اور جا رہے ہو، لہذا پکارو تو ہمیں پکارو، اور ہم سے مانگو، سارے مسائل ہمارے سامنے پیش کرو، اللہ تعالیٰ انشاء اللہ ضرور راستہ کھولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

# صراط مستقیم حاصل کرنیکا طریقہ

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۳)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## صراطِ مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ

تفسیر سورۃ الفاتحہ (۱۳)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ  
عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ  
يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ  
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى  
اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَبَارَكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ  
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ  
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ  
اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ  
عَلَيْهِمْ طَغِيْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا لَظٰلِمِيْنَ - امنت باللّٰه  
صدق اللّٰه مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، و  
نحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله  
رب العالمين.

تمہید

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! آج بڑے وقفے کے بعد آپ حضرات سے

ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا درس چل رہا تھا، اسی سلسلے کو ذہن میں تازہ کرنے کیلئے میں پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی آخری آیت کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سورہ فاتحہ چونکہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لئے اس کے معانی اور اس کے مضامین ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونے چاہئیں، تاکہ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کے مفہوم کی طرف ذہن جائے، سورہ فاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے، پہلی آیت: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا: **الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**۔ وہ سب پر رحم کرنے والا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے: **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ**۔ جو مالک ہے روز جزا کا، اس دن کا جس دن سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور دنیا میں جو اعمال کیے ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور برے کاموں کا برابر بدلہ دیا جائے گا، وہ اس دن کا مالک ہے۔

### سب ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ ہر چیز کے مالک تو ہر وقت ہیں، لیکن ظاہری طور پر انسان کو ملکیتیں دے رکھی ہیں، جیسے ہم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم کپڑوں کے مالک ہیں، میری جیب میں پیسے ہیں، پیسوں کا مالک ہوں، گھر میرا ہے، گھر کا مالک ہوں، لیکن آخرت میں کوئی مالک نہیں رہے گا، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، روز جزا کا ایک ہی مالک ہے اور وہ اللہ تبارک و

تعالیٰ ہے، پھر یہ بتایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح مانگا جائے چنانچہ چوتھی آیت میں فرمایا گیا: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور پھر یہ آیت آتی ہے: **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**۔ چونکہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یا اللہ آپ ہمیں صراطِ مستقیم کی یعنی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، پھر آگے صراطِ مستقیم کی تفصیل ہے کہ صراطِ مستقیم کیا ہے؟ فرمایا: **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا: **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ**۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا: **وَالضَّالِّينَ**۔ اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ آپ سے ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ۔ ان میں سے چار آیتوں کا بیان پچھلے جمعوں میں عرض کر چکا ہوں، اب پانچویں آیت کا بیان ہے: **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**۔ اے اللہ آپ ہمیں صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا فرمادیجئے۔

## صراطِ مستقیم کی ہر جگہ ضرورت ہے

یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، نہ صرف یہ کہ سکھائی، بلکہ لازم کر دی ہے، ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم سے یہ دعا منگوائی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہو گئی ہیں، کیونکہ صراطِ مستقیم کے ہم ہر جگہ محتاج ہیں، ہم جو کام بھی کرنے جا رہے

ہیں اور جو مقصد بھی حاصل کرنا ہو، اس میں ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے، ایسا سیدھا راستہ جو ہمیں مقصد تک پہنچا دے، اگر کوچ پیچ والا راستہ ہو، یا ٹیڑھا راستہ ہو، یا تو وہ ہمیں منزل تک پہنچائے گا نہیں، یا پہنچائے گا تو مشقت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پہنچائے گا، اس لئے ہمیں ہر کام میں صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔

### علاج میں صراط مستقیم کی ضرورت

فرض کرو بیمار ہو گئے، علاج کرنا ہے، تو علاج کے لئے بھی صراط مستقیم کی ضرورت ہے، کہ بھئی صحیح معالج ذہن میں آئے، معالج کو بھی صراط مستقیم کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ بیماری کیا ہے اور اس بیماری میں کونسی دوا فائدہ مند ہوگی، روزی کمانے جا رہے ہیں تو اس میں صراط مستقیم کی ضرورت ہے کہ کونسی روزی حلال ہے اور کونسی حرام ہے؟ اور کونسی میرے لئے فائدہ مند ہے اور کونسی فائدہ مند نہیں ہے، غرض دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں صراط مستقیم درکار نہ ہو، اس لئے بڑی جامع دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے۔

### ہم لوگوں کی حالت

لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے مطلب اور معنی کی طرف دھیان دیئے بغیر ایک رٹے ہوئے کلمات کی طرح پڑھتے ہیں، جب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سوچ اون ہو گیا، اور اس کے بعد کیسٹ چلنی شروع ہو گئی، نہ یہ پتہ کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور نہ یہ پتہ کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ نتیجہ یہ کہ اس دعا کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ حاصل نہیں ہوتا۔

## ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب

حضور اقدس بنی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب ارشاد ہے کہ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور یہ کہتا ہے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**. کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین ہیں، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

﴿ حَمِدْنِي عَبْدِي ﴾

میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر جب ہم کہتے ہیں: **الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

﴿ اِنْنِي عَلَيَّ عَبْدِي ﴾

میرے بندے نے میری ثناء کی، پھر جب بندہ کہتا ہے: **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ**. تو باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ:

﴿ مَجَدَّنِي عَبْدِي ﴾

میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، پھر جب بندہ کہتا ہے: **اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

﴿ هَذَا بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي ﴾

اس نے ایسا جملہ کہا ہے، کہ آدھا میرا اور آدھا اس کا، کیا معنی؟ کہ: **اِيَّاكَ نَعْبُدُ**. کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ بات اللہ کے لئے ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ: **وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**. ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ مدد جو مانگ رہے ہیں، یہ اپنے لئے مانگ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو مانگے گا



میں اس کو دوں گا، جب بندہ کہتا ہے: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو باری تعالیٰ وعدہ فرما لیتے ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ دیں گے، صراطِ مستقیم دینے کا وعدہ فرما لیتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم بے دھیانی سے ایک سانس میں پڑھتے ہوئے چلے گئے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب نہ سنا، اور نہ جواب کا وقفہ دیا، جب تمہاری یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے۔

## ایک بزرگ کا واقعہ

حضرت شیخ ابن اکبر علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور بڑے صوفیا کرام میں سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، اور: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . کہتا ہوں تو اس وقت تک آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک اللہ جل جلالہ کا جواب سن نہ لوں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں، جب تک آپ کا جواب نہیں سن لوں گا، پھر کہتا ہوں: اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . پھر جواب سنتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں، اس لئے سورۃ فاتحہ کا ادب یہ ہے، کہ آدمی ہر آیت پر ٹھہرے، پھر آگے پڑھے، جب دھیان کے ساتھ پڑھے گا: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . کہ کس سے مانگ رہے ہو، زبان سے ہی نہیں، بلکہ دل سے مانگو، یا اللہ ہمیں صراطِ مستقیم چاہیے، جب دل سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیدیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ:

وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

ترجمہ: میرا بندہ پوچھے کہ میں کہاں ہوں، میں تو قریب ہی ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب آدمی اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے گا تو انشاء اللہ تم انشاء اللہ صراطِ مستقیم کی ہدایت ضرور ملے گی، کوئی وجہ نہیں، باری تعالیٰ کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، مانگنے والا چاہے، مانگنے کی صحیح معنی میں خواہش ہو، ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

أَنْزَلْنَاكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ

ترجمہ: کیا ہم زبردستی ہدایت دے دیں، اور جب تمہیں ہدایت مانگنے کی طلب بھی نہ ہو۔ تمہیں ہدایت پسند نہیں، میرے بھائیو! ہم جب کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور: إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . کہیں، تو بڑے دھیان سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکاری بن کر کہہ یا اللہ ہم بھکاری بن کر آئیں ہیں، ہمیں صراطِ مستقیم کی بھیک چاہیے، اپنے فضل و کرم سے دیدیجئے۔

### صراطِ مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ

دوسرا نکتہ میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یہ حکم دیا کہ صراطِ مستقیم مانگو، وہاں صراطِ مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا، وہ اگلی آیت ہے: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ میں چاہتا ہوں، جن پر آپ کے انعامات نازل ہوئے، وہ کون ہیں؟ یہ سورہ النساء میں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَ  
الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

(النساء: ۶۹)

جن پر اللہ کا انعام ہوا ان میں سے ایک تو حضرت انبیاء علیہم الصلوٰۃ السلام  
ہیں، دوسرے صدیقین، صدیقین انبیاء کرام کے وہ پیروکار اور وہ تبعین ہیں جنہوں  
نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کو ٹھیک کیا، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی  
اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، تیسرے شہداء، شہداء وہ ہیں جنہوں نے  
اپنی جانیں اللہ جل شانہ کے دین کیلئے قربان کیں، چوتھے صالحین، صالحین وہ لوگ  
ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اس آیت سے سمجھنا یہ مقصود ہے کہ  
اگر صراط مستقیم چاہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہو تو صراط مستقیم  
تمہیں ان حضرات کی صحبت میں ملے گی تو ان حضرات کے طریقے میں ملے گی، یہ  
دیکھو! انبیاء علیہم الصلوٰۃ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اسے اختیار کرو، یہ دیکھو! صدیقین کا  
طریقہ کیا تھا؟ وہ اختیار کرو، یہ دیکھو! شہداء کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اختیار کرو، یہ دیکھو  
صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ اسے اختیار کرو، تنبیہ اس بات پر فرمادی کہ  
صراط مستقیم صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آجائے گا، کہ تم نے مطالعہ کر لیا، اور پتہ  
چل گیا کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، نہیں؛ بلکہ اس کیلئے اپنی صحبت درست کرو، اپنا اٹھنا  
بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنی ملاقاتیں ایسے لوگوں سے رکھو، جن پر اللہ نے اپنا انعام  
فرمایا، پھر تمہیں دین سمجھ میں آئے گا، پھر تم میں دین پر چلنے کا جزبہ پیدا ہوگا۔

ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ

یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ فرمادیا، جو آج بھی بہت سے لوگوں

کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لئے کافی ہے، ہمیں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس کے ترجمے چھپے ہوئے موجود ہیں، ترجموں کے ذریعے قرآن کریم پڑھیں گے، اور اس کے ذریعے جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کریں گے، ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک لوگ کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح عمل کی تلقین کر رہے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، اگرچہ پورا قرآن ہی صراطِ مستقیم ہے، لیکن اس صراطِ مستقیم کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دیکھو، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، وہ بتائیں گے تمہیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا مطلب کیا ہے، اور اس پر کس طرح عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء ہی سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے۔

### دو چیزیں ساتھ ساتھ اتاریں

دو چیزیں ساتھ ساتھ اتاری ہیں، ایک تو اللہ نے کتاب اتاری، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اور آخر میں قرآن مجید آیا، دوسرے پیغمبر بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی، کیوں؟ اس لئے تاکہ پیغمبر یہ بتائے کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کے پیچھے چلو، پیغمبر کی ذات پر ایمان لاؤ، اور اس کے طریقے پر عمل پیرا ہوں، دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رجال، دونوں کے امتزاج سے دین کی صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے، مگر ابھی جو پھیلی ہے، وہ اس طرح پھیلی ہے، کہ کچھ

لوگوں نے کتاب کو تو پکڑ لیا، اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجے تھے، اور پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا اور صحبت کا جو سامان دیا تھا اس سے قطع نظر کر لی، ہم بس اللہ کی کتاب پڑھیں گے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں نمونوں کی کیا ضرورت ہے، العیاذ باللہ العلیٰ العظیم، ارے اگر نمونے کی ضرورت نہ ہوتی تو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، مکہ کے کافر کہتے تھے قرآن ہمارے اوپر براہ راست کیوں نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کیلئے تنہا کتاب کافی نہیں ہوا کرتی، جب تک معلم و مربی اس کتاب کا موجود نہ ہو، یہ انسان کی فطرت ہے، دنیا کا کوئی بھی علم و فن آدمی صرف کتاب کے مطالعہ سے حاصل نہیں کر سکتا، جب تک اس کا مربی موجود نہ ہو۔

کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتے

کوئی میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لے، اور پڑھ کر علاج شروع کر دے تو وہ قبرستان ہی آباد کرے گا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کھانا پکانے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ بریانی ایسے بنتی ہے، قورمہ ایسے بنتا ہے، کباب ایسے بنتے ہیں، تو کتاب سامنے رکھ کر بناؤ قورمہ تو خدا جانے کیا ملغوبہ تیار ہو جائے گا، جب تک کسی ماہر باورچی نے تمہیں کھانا پکانا نہ سکھایا ہو، محض کتاب دیکھ کر پکاؤ گے، تو کبھی اچھا نہیں پکا سکتے۔

اللہ کی کتاب کے لئے رسول کی ہدایت

اللہ کی کتاب جو ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے، لیکن اس کتاب پر عمل کر کے زندگی کیسے گزاری جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور حالات زندگی

جب تک نہ دیکھے، اس وقت تک انسان اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتا، اس طرح جیسے کتاب اللہ پر ایمان ضروری ہے، اللہ کے رجال پر بھی ایمان ضروری ہے، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں سے تعلق رکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تم میں اچھائیاں منتقل فرماتے ہیں: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ نے غضب کیا، اور جو گمراہ ہوئے، یعنی اچھی صحبت اختیار کرنے کی تاکید بھی فرما دی، اور بری صحبت سے احتراز کی تاکید بھی فرمائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کے پیچھے چل پڑو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صراط مستقیم کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ اختیار کرو، اور انکی صحبت اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

# خاندانی اختلافات کے اسباب



اور

## ان کا حل

آج کے معاشرے میں شاید ہی کوئی خاندان یا گھرانہ ایسا ہوگا جس کے افراد کے درمیان کوئی اختلاف اور جھگڑا نہ ہو، آج ہر خاندان جھگڑوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، راحت اور چین و سکون برباد ہو چکا ہے، ہر خاندان اختلافات کا رونا رو رہا ہے، لیکن اس کو ان جھگڑوں سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ ان خاندانی اختلافات کے اسباب کو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے ایک ایک کر کے بیان فرمایا ہے، جو کتابی شکل میں ”خاندانی اختلافات کے اسباب اور ان کا حل“ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

اپنے قریبی اسلامی کتب خانہ سے طلب فرمائیں۔

رعایتی قیمت انتہائی مناسب

محمد امین ایڈیشن

محمد مشہود الحق کلیانوی

0313-920 54 97

0322-241 88 20

E-mail : memonip@hotmail.com

سورة الفلق  
اور سورة الناس کی اہمیت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز



مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهٗ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُوْلَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ \* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ \* قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ \* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ \* وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثِ فِي الْعُقَدِ \* وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ \* قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* اِلٰهِ النَّاسِ \* مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذِيْ يُّوسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ \* مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ . \*

تمہید

بزرگان محترم اور برادران عزیز! کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا

تھا کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، اُن کی کچھ تفسیر اور تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے، اُس سلسلہ میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کافی عرصے سے چلتی رہی، الحمد للہ بقدر ضرورت اُس کا بیان مکمل ہو گیا تھا، میں کچھ وقتی مسائل آئے، جن پر بیان ہوتا رہا، اور اب پھر میں اسی سلسلہ کی طرف لوٹ رہا ہوں، اور اس کے لئے میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی ہے۔

### سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا شان نزول

یہ دو سورتیں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ یہ قرآن کی آخری سورتیں ہیں، اور ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، معوذتین کے معنی یہ ہیں کہ وہ دو سورتیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، ان سورتوں کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے، جن میں یہ سورتیں نازل ہوئی تھیں، صحیح احادیث میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، آپ نے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، یہودی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسد رکھتے تھے، حسدان کو اس بات پر تھا کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور پچھلے تمام انبیاء کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جن

کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، پچھلے جتنے انبیاء کرام آئے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، یعنی بنو اسرائیل میں آئے، یہ یہودی بھی بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ سب سے آخری نبی اور سب سے آخری پیغمبر جو سب سے افضل پیغمبر بھی ہیں، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث کیا گیا، تو یہودیوں کو یہ حسد ہوا کہ اگرچہ ان کی کتابوں میں یعنی تورات میں زبور میں انجیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتایا ہوا تھا کہ آخر میں ہم ایسے پیغمبر بھیجیں گے جو خاتم النبیین ہوں گے، اور جن کی نبوت ساری دنیا کے لئے ہوگی، اور قیام قیامت تک کے لئے ہوگی، یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں پہلے سے موجود تھیں، ان یہودیوں کو یہ خیال تھا کہ جس طرح اب تک سارے انبیاء کرام بنو اسرائیل میں آتے رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آتے رہیں ہیں، اسی طرح نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان میں آئیں گے، لیکن جب وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ السلام کی اولاد میں آگئے، تو ان کو حسد ہو گیا، اور اس حسد کی وجہ سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں ان کی طرف سے پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ چاہا کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو، چنانچہ ایک معاہدہ کیا کہ جہی ہم آپس میں امن و سکون کے ساتھ رہیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک بہت بڑا معاہدہ کیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، ظاہر میں تو انہوں نے معاہدہ کر لیا، لیکن اندرون خانہ حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا، قرآن کریم میں جگہ جگہ ان سازشوں کا ذکر آیا ہے۔

### حسد کی وجہ سے یہودی کا جادو کرنا

اسی حسد کی وجہ سے ایک یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اس جادو کی وجہ سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات آپ کو ایسا ہوتا کہ ایک کام آپ نے کر لیا ہے، مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ سے ایک طرح انقباض کی کیفیت طاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی، ایک دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چلی رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا۔

### حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب

اور میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لیبید بن اعصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے، پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لنگے کے ذریعہ

جادو کیا ہے، اور کنگے کے اندر جو بال آجاتے ہیں کنگا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے، پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بزرگواران کے نام سے وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھا کروہاں دفن کر دیئے، یہ ساری تفصیل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعہ بتادی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے مجھے ساری تفصیل اس طرح بتادی ہے، چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا، وہاں سے وہ کنگا بھی برآمد ہو گیا، کنگے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے، پھر اسی موقع پر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھیں۔

قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔

## سورة الفلق کا ترجمہ

قل کے معنی ہیں کہو تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا کہ کہو، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو اور کہو: میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو صبح کے وقت پو پھٹنے کی مالک ہے، جس کے حکم سے صبح کو پو پھٹتی ہے، یعنی صبح نمودار ہوتی ہے اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، میں پناہ مانگتا ہوں رات کے اندھیرے سے جب وہ پھیل جائے، اور ان لوگوں کے شر سے جو گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں، اور

اس شخص کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو حسد کرنے والا ہو یعنی حسد کرے اور حسد کے نتیجے میں تکلیف پہنچائے میں اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جادوگر یہ عمل کرتے ہیں کچھ پڑھا اور گرہ بنا دی، پھر کچھ پڑھا اور گرہ بنا دی، پھر کچھ پڑھا اور گرہ بنا دی تو ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، بعض روایات میں آتا ہے کہ لیبید بن اعصم یہودی جس نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا، اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھیں تھیں اور وہ تانت کے دھاگے کو کنگے کے اندر لگا دیا تھا۔

### ہر ایک آیت پر ایک گرہ کھول دی

قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان دونوں میں گیارہ آیتیں ہیں، اور اس دھاگے کے اوپر بھی گیارہ گرہیں لگی ہوئی تھیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک آیت پڑھتے اور اسکی ایک گرہ کھول دیتے، دوسری آیت پڑھتے اور دوسری گرہ کھول دیتے، تیسری آیت پڑھتے پھر تیسری گرہ کھول دیتے، یہاں تک کہ گیارہ آیتیں پڑھ کر گیارہ کی گیارہ گرہیں کھول دیں، جب وہ گرہیں کھل گئیں تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ:

”ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کچھ بندھا ہوا تھا اور اب کھل گیا ہوں“

تو جادو کا جو اثر تھا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زائل فرمادیا۔

## فرائض رسالت میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا

یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ انبیاء کرام خاص طور سے افضل الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی انسان، کوئی شیطان، کوئی جن ایسا جادو نہیں کر سکتا کہ انبیاء کرام کو ان کے فرائض رسالت کو ادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ جن کے نتیجے میں کہ وہ اپنی نبوت کے فرائض انجام نہ دے سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا کی ساری طاقتیں بھی جمع کر کے بھی کوئی انبیاء کرام اوپر ایسی حالت طاری نہیں کر سکتا، چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو، یا کسی اور ذریعے سے ہو جس سے انبیاء کرام کے فرائض رسالت میں کوئی رکاوٹ پڑے۔

## انبیاء پر جادو چل سکتا ہے

البتہ انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، لیکن انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان اوپر بیماریاں بھی آتی ہیں، نزلہ بھی آگیا، بخار ہو گیا، یا کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی، یہ انبیاء کرام کو ہوتا رہتا ہے، جس طرح اگر کوئی آدمی کھانے پینے میں بے احتیاطی کرے اس سے بیماری ہو جاتی ہے، اسی طرح انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے کوئی بیماری آجائے تو یہ انبیاء کرام کی نبوت کے منافی نہیں ہے جس طرح عام آدمی کو بخار آ سکتا ہے جس طرح عام آدمی کو نزلہ ہو سکتا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو جادو کی وجہ سے کوئی جسمانی تکلیف ہو جائے تو یہ کوئی



مستبعد بات نہیں ہیں ایسا ہو سکتا ہے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے بھیجا گیا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر تمام حالات طاری کر کے دکھائے ہیں کہ ایسی حالت اگر طاری ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی سنت کیا ہوگی؟ ایسے موقع پر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بتا دیں، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے یا کسی اور بدخواہی کی وجہ سے دوسروں پر جادو کر دیتے ہیں تو جادو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بیماری، یہ بھی ایک ذریعہ ہے تکلیف پہنچنے کا۔ اس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بھی جادو کا اثر ظاہر کر لیا، اس کے ذریعہ ایک تو یہ دکھا دیا کہ جادو کرنے والا اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگالے، تب بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ اس سے پوری امت کو سبق دیا کہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ یہ دو سورتیں نازل فرما کر یہ بتایا کہ کسی پر جادو کا کوئی اثر ہو تو اس کو یہ سورتیں پڑھنی چاہیں اور ان سورتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں انشاء اللہ اس جادو کا اثر اس سے ذائل ہوگا اور اگر کسی پر جادو کا اثر نہیں ہے تب بھی ان دو سورتوں کا معمول بنالینا اور پڑھنا اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا انشاء اللہ و تعالیٰ۔

صبح و شام یہ سورتیں پڑھا کریں

چنانچہ ایک صحابی سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو

سورتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہیں، جو اس سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھیں، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم صبح شام اس کو پڑھا کرو، صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، محفوظ رکھیں گے، اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دو سورتیں، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں اور چاروں قل پڑھا کرتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ اپنے دست مبارک پر دم کرتے، اور پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے، یہ معمول نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا۔

## مرض الوفات میں آپ کی کیفیت

اور جب مرض وفات میں سخت بیماری کا وقت تھا، اور وفات کا وقت قریب تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو ساری زندگی دیکھا تھا کہ سونے سے پہلے آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ تو صحیح طرح پڑھ پارہے تھے، اور نہ ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ آپ خود ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم پر پھیر لیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور اپنے ہاتھ پر دم کرنے کے بجائے سرکار دو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا، اور اپنے ہاتھ سے آپ کے دست مبارک اٹھا کر سارے جسم پر پھیرے، تو یہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ ساری زندگی یہ معمول رہا کہ سونے سے پہلے یہ دو سورتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی تلقین فرمائی کہ صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاء اللہ حفاظت فرمائیں گے۔

### دشمنوں کے شر سے بچنے کا موثر ذریعہ

تو یہ ہے ان دونوں سورتوں کے نازل ہونے کا پس منظر اور ان کا شان نزول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب کسی کو ایسی صورت پیش آئے یا پیش آنے کا اندیشہ ہو تو آدمی کو یہ دونوں سورتیں پڑھنی چاہیں، اور قل کہہ کر فرمایا یہ کہو، یہ سورتیں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ تاثیر رکھی ہے، وہی جانتے ہیں، لیکن یہ انسان کو بلاؤں سے، آفتوں سے، جادو سے، دشمن کے شر سے، اور حاسد کے حسد سے بچانے کیلئے بڑا موثر ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔

### برائی کا بدلہ نہ لو، معاف کر دو

یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے اس آدمی کا نام تک بتا دیا گیا تھا، جس نے جادو کیا تھا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دیا تھا کہ وہ لبید بن اعصم ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام تک بتا دیا ہے، تو پھر آپ اس کا

اعلان کر دیجئے کہ فلاں شخص نے جادو کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف تو دور فرمادی، میری طبیعت الحمد للہ ٹھیک ہوگئی، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس شخص کو تکلیف پہنچائیں، یعنی میں اگر نام کا اعلان کر دوں گا، تو وہ صحابہ کرام جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں نثار تھے، آپ کے پسینے کے قطرے پر خون کے قطرے بہانے کو تیار تھے، وہ اس کو مارتے، یا قتل کر دیتے، یا اس کے ساتھ کوئی اور ایسا سلوک کرتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ شرم پیدا کرنا نہیں چاہتا، بس اللہ نے میری تکلیف دور کر دی یہ کافی ہے، تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سبق دیا کہ اگر آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے، یا دوسرے کے ساتھ دشمنی یا عداوت کا معاملہ کرے، تو اگر چہ شریعت نے حق دیا ہے، اس سے بدلہ لینے کا، اور اس کو سزا دلوانے کا، لیکن اگر وہ نظر انداز کر دے، اور بدلہ نہ لے تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔

یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک آدمی نے دشمنی کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دشمنی کے اثر کو زائل کر دیا، اس کو بچالیا، لیکن دشمنی کرنے والے کا جواب دشمنی سے نہ دیا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک عظیم سبق دے دیا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم برائی سے بچنے کا جو طریقہ اختیار کر سکتے ہو کر لو، اپنے آپ کو برائی سے بچالو، لیکن باوجودیکہ تمہیں حق ہے اس سے بدلہ لو، لیکن اگر بدلہ نہ لو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو، تو یہ ایک عظیم سبق سرکار

دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ میں اس امت کو دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، (آمین) باقی تفصیل انشاء اللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

# حاسد سے پناہ مانگو

سورۃ الفلق (۱)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم

ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## حاسد سے پناہ مانگو

سورة الفلق (۱)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُوْلَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا مَا بَعْدَ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ - اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِيْدِيْنَ وَالشُّكْرِيْنَ -

تمہید

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز! یہ سورت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے



پڑھی ہے سورۃ الفلق کہلاتی ہے، اور پچھلے جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور اس موقع پر نازل ہوئیں جب نبی کریم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی۔ تفصیلی واقعہ پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، تو اس موقع پر یہ سورتیں نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ یہ سورتیں تلاوت فرمائیں، ان دونوں سورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں، اور جس دھاگے پر جادو کرنے والے نے جادو کیا تھا، اس میں بھی گیارہ گرہیں تھی، آپ ایک آیت تلاوت فرماتے اور ایک گرہ کھولتے، یہاں تک کہ گیارہ کی گیارہ گرہیں کھول دی گئیں، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسا کہ میں کسی قید سے آزاد ہو گیا ہوں، ان سورتوں کا نزول اسی خاص واقعہ میں ہوا، لیکن یہ پوری امت کے لئے عظیم ہدایتوں پر مشتمل سورتیں ہیں۔

### پہلی آیت مطلب

فرمایا گیا قل اعوذ برب الفلق کہو میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو صبح کے وقت پو پھٹنے کی پروردگار ہے، اس آیت میں اللہ جل شانہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ جل جلالہ کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ آپ صبح کے وقت روشنی پھوٹنے کے پروردگار ہیں، یعنی جس طرح انسان روزانہ مشاہدہ کرتا ہے کہ رات آتی ہے، اور اندھیرا اچھا جاتا ہے، تاریکی ہو جاتی ہے، اتنی تاریکی ہو جاتی ہے، اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آسکتی، لیکن اللہ جل جلالہ اس اندھیرے کو اس

طرح رفع فرماتے ہیں کہ اسی اندھیرے سے صبح کے وقت میں پو پھٹتی ہے، یعنی روشنی نمودار ہوتی ہے، یہ روز کا مشاہدہ ہے انسان کا کہ یہ تاریکی جو چھاتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تاریکی کو اس اندھیرے کو صبح کے وقت دور فرمادیتے ہیں، قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ  
إِلَّا غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ . (سورة القصص: ۷۱)

ترجمہ: ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ اندھیرا جورات کے وقت میں چھا جاتا ہے، یہ ابدی اور دائمی ہو جائے، یعنی مستقل اندھیرا ہی اندھیرا رہے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک ذریعہ سورج کو بنایا ہے، سورج کی روشنی ہم تک آتی ہے، اس سے دن ہوتا ہے، اس سے روشنی پھیلتی ہے، نور پھیلتا ہے، پھر اسی سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام کے تحت چھادیتے ہیں، زمین گردش کرتی ہے، اور سورج پیچھے چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تو دراصل اس کائنات میں اندھیرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو اس طرح مقرر فرمادیا کہ اس اندھیرے میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اگر کسی وقت فرض کرو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں روک دے تو رات ہی رات اندھیرا ہی اندھیرا اور ظلمت ہی ظلمت طاری رہے گی۔

چھ ماہ کی رات

اور یہ منظر ان جگہوں پر نظر آتا ہے جو بالکل انتہائی شمالی علاقے ہیں، جو دنیا

کے قطب شمالی کے قریب ہیں، وہاں چھ مہینے رات رہتی ہے، اور اسی کے قریب ایک ملک ”ناروے“ میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ہم ایک جگہ پر گئے تو تین دن اس طرح گزارے کہ اس میں سورج نظر نہیں آیا، مسلسل رات ہی رات رہی، وہاں مجھے یہ آیت کریمہ یاد آرہی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ

اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ . (سورة القصص: ۷۱).

اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو مستقل اور دائمی کر دے، اندھیرا چھایا ہی رہے تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں روشنی لا کر دے سکے؟..... افلا تسمعون؟..... کیا سنتے نہیں ہوتی بات؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ اندھیرا چھاتا ہے، اور روز چھاتا ہے، تاریکی آتی ہے، روز آتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اور مستقل نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریکی میں سے ہی نور پیدا فرمادیتے ہیں، اسی سے روشنی نکال دیتے ہیں، تو یہ ہے رب الفلق صبح کی روشنی کا مالک بے نیاز، اور اس سے اشارہ اس طرف کر دیا کہ اندھیرا انسان کے لیے اس معنی میں تکلیف دہ ہے کہ اس میں آدمی راستہ بھی بھٹک سکتا ہے، اس میں انسان گر بھی سکتا ہے، اندھیرے کے اندر گرا ہی بھی اختیار کر سکتا ہے، شر کی قوتیں بھی رات کے وقت زیادہ فعال ہوتی ہیں، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تاریکی دور کر دیتے ہیں، اندھیرا دور کر دیتے ہیں، اسی طرح صبح کی روشنی بھی نمودار کرتے ہیں۔

تکلیف دور کرنے والی ذات وہی ہے

اسی طرح وہی ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی

ہے، کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، کوئی بھی زحمت تمہیں لاحق ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرے، تمہارے صدمے کو رفع کرے، تمہارے اس اذیت کو راحت سے تبدیل کر دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی لیے فرمایا: قل اعوذ برب الفلق کہو، میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی جو پروردگار ہے صبح کو نکالنے کا۔

## کس چیز کی پناہ مانگتا ہوں؟

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمائیں، باری تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق ہے، فرشتوں کا بھی خالق ہے، پیغمبروں کا بھی خالق ہے، شیطانوں کا بھی خالق ہے، کافروں کا بھی خالق ہے، سب چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اب ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شر پھیلاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان سب کو ان الفاظ میں جمع کر دیا، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ یعنی جتنی بھی کائنات میں چیزیں پائی جاتی ہیں، مخلوقات پائی جاتی ہیں، ان سب کے شر سے میں اس رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں۔

## تکلیف سے کوئی انسان خالی نہیں

ان دو آیتوں میں یہ تعلیم دی کہ اس کائنات میں انسان کو تکلیف تو ضرور پہنچتی ہے، کوئی کتنے بڑے سے بڑا دولت مند ہو، سرمایہ دار ہو، حاکم ہو، اور بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، تکلیف سے کوئی خالی نہیں، اس دنیا

میں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی تکلیف پہنچ جاتی ہے، انسان کتنا ہی اقتدار حاصل کر لے، دنیا پر اپنا رعب کا سکہ جمالے، لیکن کبھی نہ کبھی جو تا پڑھ ہی جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی انسان ایسا نہیں کائنات میں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ساری زندگی میں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔

## تین عالم

اللہ تعالیٰ نے تین عالم پیدا فرمائے ہیں ایک عالم ایسا ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، خوشی ہی خوشی ہے، وہ ہے جنت، ایک عالم ایسا ہے جس میں رنج ہی رنج ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ ہے جہنم، اور ایک عالم ایسا ہے جس میں دونوں چیزیں ملی جلی چلتی ہیں، کبھی تکلیف آگئی، کبھی آرام آگیا، کبھی خوشی مل گئی، وہ یہ دنیا ہے، یہ عالم ایسا ہے کہ اس میں نہ خوشی کامل ہے، نہ تکلیف کامل ہے، دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، لہذا تکلیف تو آئیں گی، ضرور آئیں گی۔

## اللہ کی طرف رجوع کرو

لیکن جو بھی تکلیف آئے، تو اس تکلیف کے آنے پر تمہارا کام یہ ہونا چاہئے کہ تم اس تکلیف کے خالق کی طرف رجوع کر کے کہو: کہ اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس تکلیف سے قل اعوذ برب الفلق۔ من شر ما خلق۔ اے اللہ میں آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا فرمائی ہے، تو جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو گے، کیونکہ تکلیف بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے،

تکلیف کا سبب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیں گے، یا تو وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، یا تو وہ تکلیف تمہارے لیے نعمت اور رحمت بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے سے دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، تیسری نہیں ہو سکتی یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت اپنی قدرت کے تحت اپنی رحمت کے تحت وہ تکلیف تم سے دور کر دیں گے، اور اگر تکلیف کا دور ہونا کسی وجہ سے مقدر میں نہیں ہے، تو وہ تکلیف اور مصیبت تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، اس معنی میں کہ اس تکلیف اور مصیبت سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب عطا ہوگا، تم اس تکلیف پر صبر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو گے، تو تمہیں صبر کا اجر و ثواب ملے گا۔

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: ۱۰)

صابروں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخرت میں صبر کرنے والوں کو صبر کا اجر دیا جائے گا، صبر کا ثواب دیا جائے گا، تو لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا تو اس پر ہم صبر کرتے تو آج جو بے حساب اجر صابروں کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملتا۔

مؤمن اور کافر کے درمیان فرق

یہی فرق ہوتا ہے مؤمن میں اور کافر میں، کافر جس کا اللہ ایمان نہیں، اللہ

جل جلالہ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اس کی حکمت پر ایمان نہیں، تکلیف اسے بھی آتی ہے، اور ایک مومن کو بھی آتی ہے، لیکن کافر تکلیف کے وقت میں گلہ شکوہ کرتا ہے کہ مجھی پر یہ برائی آئی تھی، یہ مصیبت کیوں آگئی؟ میں ہی رہ گیا تھا، اس تکلیف کے لیے گلہ شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اور اس کی تقدیر کا شکوہ کرتا ہے، تو وہ تکلیف اس کے لیے سراپا تکلیف ہے، اور مصیبت ہی مصیبت ہے، ”خسر دنیا و لآخرہ“ دنیا میں بھی تکلیف اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ایک مومن کو تکلیف آتی ہے، تو وہ چاہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تدبیر بھی کرے، بیماری آگئی تو علاج بھی کرے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، گلہ شکوہ نہیں کرتا، اور اللہ ہی کی پناہ مانگتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس مصیبت کا تحمل نہیں کر پاتا، میری کمزوری پر رحم فرما کر مجھ سے یہ تکلیف دور فرما دیجئے، تو نتیجہ یہ کہ یہی مصیبت اور یہی تکلیف اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے

### تکلیف اور اندیشہ کے وقت کہو:

تو اس لیے سکھایا یہ جارہا ہے اس چھوٹے سے جملے میں کہ کہو، کب کہو؟ جب کہ تمہیں کوئی تکلیف یا تو پہنچ چکی ہو، یا پہنچنے کا اندیشہ ہو، دونوں صورتوں میں کہو، اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق۔ میں تو رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو پھر دو حال سے خالی نہیں رہ سکتا، یا تکلیف راحت سے بدل جائے گی، یا پھر جب

تک وہ تکلیف باقی رہے گی، اس وقت تک اس کے لئے رحمت ہی رحمت بنی رہے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، لہذا جب بھی کوئی تکلیف آئے، یا اندیشہ آئندہ کے لئے پیدا ہو، تو کہو: قل اعوذ برب الفلق میں اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، وہ تکلیف چاہے انسانوں کی طرف سے آرہی ہو، کوئی دشمن ہے، وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، یا جنات کی طرف سے آرہی ہو، شیطانوں کی طرف سے آرہی ہو، بیماری ہو، آزار ہو، فقر و فاقہ ہو، تنگدستی ہو، رشتے داروں کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہو، کسی کی بھی طرف سے پہنچ رہی ہو، ہر حالت میں یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو: من شر ما خلق: اس میں ساری مخلوقات آگئیں۔

اعوذ باللہ پڑھنا

دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا:

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ نَزْغٌ فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ:

(سورۃ حم سجدہ: ۳۶)

ترجمہ: جب شیطان تمہیں کوئی کچوکہ لگائے، تو اللہ کی پناہ مانگو شیطن الرجیم سے، کچوکہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں گناہ کا ارادہ پیدا کر رہا ہے، دل میں گناہ کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے کہ یہ گناہ کر گزروں، اس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، یہ شیطان کا کچوکہ ہے، تو فرمایا ایسے میں اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے: اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے، مثلاً غصہ آگیا، اور انسان آپ سے باہر ہو گیا، اور دماغ میں اشتعال برپا ہے، تو ایسے غصہ کی حالت میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی



آدمی کسی دوسرے پر زیادتی کر گزرے، یا کوئی برا کلمہ اس کو کہہ دے، جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، یا گالی والی دیدے، اور اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال کر لے، یا کسی کو مار بیٹھے، لہذا غصہ بڑی خراب چیز ہے، یہ انسان کو بے شمار گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، مجھے کوئی مختصر نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ”لَا تَغْضَب“ غصہ نہ کرنا، بس اتنی نصیحت فرمائی کہ غصہ مت کرنا، لہذا غصہ بڑی خراب چیز ہے، تو جب غصہ آنے لگے، اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں اس غصہ سے آپے سے باہر ہو جاؤں گا، اور کوئی غلط کام کر گزروں گا، اس وقت اللہ کی پناہ مانگو اور پڑھو: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: کیونکہ یہ شیطان ہے جو مجھے اس غصہ پر اکسارہا ہے، تو اللہ کی پناہ مانگو کہو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے، غرض کسی بھی قسم کا شر ہو، کوئی برائی سامنے آرہی ہو، تو انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے۔

### خلاصہ :

یہی مطلب ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کا، کہ ہو: اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی ہر اس چیز سے جو آپ نے پیدا فرمائی، یہ مومن کا دن رات کا وظیفہ ہے، یہ نہ ہو کہ کسی خاص وقت میں پڑھ لے، ارے بھی جب بھی کوئی تکلیف رنج صدمہ پیش آئے، اللہ کی پناہ مانگنے کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرو، یہ وہ چیز ہے جو انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا مضبوط کر دیتی ہے، اور یہ تعلق مع اللہ کا مضبوط ہونا ہی ساری کامیابیوں کی کنجی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے: آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

# سورة الفلق کی تلاوت (۲)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## سورۃ الفلق کی تلاوت

(۲)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ  
عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ  
يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ  
لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى  
اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ  
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، قُلْ اَعُوْذُ  
بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وَ  
مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ - اٰمَنْت  
بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ  
وَ نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِيْدِيْنَ وَ الشُّكْرِيْنَ -

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! پچھلے جمعہ سے پہلے دو ہفتوں میں سورہ فلق

کی تفسیر کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا، مقصد یہ تھا کہ جو یہ سورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان کا کچھ مطلب ہمارے ذہن میں رہے، اور ان سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دو سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ دونوں سورتیں اس موقع پر نازل ہوئی تھیں جب ایک یہودی نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورتیں نازل فرمائیں، اور اس میں آپ کو ان سورتوں کو پڑھ کر جادو کے ازالہ کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان سورتوں کی برکت سے اس جادو کا اثر ذائل کر دیا، یہ سورۃ فلق جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو صبح کی مالک ہے، من شر ما خلق ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، وہ اللہ جل جلالہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں، لہذا ان میں اگر کوئی شر ہے تو اس شر کا ازالہ بھی اللہ جل جلالہ ہو کے قبضے میں ہے، لہذا میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، ان دو آیتوں کی کچھ تھوڑی سی تفصیل اور تشریح میں پچھلے دو جمعوں میں عرض کر چکا ہوں۔

اس آیت میں ہر چیز سے پناہ آگئی

یہاں پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگو جو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی مخلوقات کے شر سے اللہ ہی پناہ مانگو، اس

میں ساری ہی چیزیں آگئیں، مخلوقات کے تمام شر اس میں داخل ہو گئے، چاہے وہ انسانوں کے طرف سے پہنچنے والی تکلیف ہو، یا جنات کی طرف سے، یا شیاطین کی طرف سے، یا جانوروں کی طرف سے، یا درندوں کی طرف سے، یا حشر الارض کی طرف سے، جو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے، اس کے شر سے پناہ اس میں آگئی، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا خاص طور سے ذکر فرمایا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ: *ومن شر غاسق اذا وقب*. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ چونکہ عام طور سے جو لوگ جادو کرنے والے ہوتے ہیں، یا سفلی عمل کرتے ہیں، وہ زیادہ تر رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، اندھیرے کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، اندھیرے میں وہ شیاطین سے بھی تعلق قائم کرتے ہیں، شیطانوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور رات کے وقت میں اندھیرے کے وقت میں ٹونے ٹونکے کیا کرتے ہیں، اس لیے خاص طور سے فرمایا گیا کہ اندھیرا جب چھا جائے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ رات ہی کے وقت میں زیادہ تر جادو کے کام ہوتے ہیں۔

### اندھیرے سے پناہ مانگو

لیکن ساتھ ہی اس میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اندھیرا ایک ایسی چیز ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، ہم تو اندھیرا اس کو سمجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی چلی گئی رات آگئی اندھیرا چھا گیا، تو اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا، لیکن حقیقت میں ہر بری چیز، ہر برا کام، ہر گناہ، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی

حقیقت میں اندھیرا ہے، فسق و فجور، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولیاں، یہ سب اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں، جو پھیلی ہوتی ہیں، تو ساتھ میں اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب کبھی تم اندھیرے میں جاؤ، چاہے اس اندھیرے کا احساس ہو سکتا ہو، یعنی ظاہری اندھیرا ہو، یا اعمال کا اندھیرا ہو، عقائد کا اندھیرا ہو، یا نظریات کا اندھیرا ہو، ان سب اندھیروں میں اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگو، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی برائی میں گھر جاتے ہیں، یا کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، تو بیٹھ کر تبصرے کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے، لوگوں میں وہ بات پھیل گئی ہے، اس کے شکوے کرتے پھرتے ہیں، لیکن یہ احساس اور یہ دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ اس اندھیرے کا علاج اگر کوئی ہے، تو وہ اللہ جل جلالہ کی دامن رحمت میں پناہ لینا ہے، اللہ کی پناہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جب کبھی اندھیروں میں گھرو تو ہمیں پکارو۔

### حضرت یونس علیہ السلام

دیکھئے! ایک اور جگہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کو ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کو مچلی نگل گئی تھی، اور مچلی کے پیٹ میں رہے، آپ اندازہ کیجئے کہ ایک زندہ انسان اگر بڑی سی مچلی کے پیٹ میں چلا جائے، تو کیا اس کی کیفیت ہوگی، وہ پیٹ ایسا کہ اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں انسان کیلئے گھناؤنا ماحول اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جب حضرت

یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام اس اندھیرے میں پہنچے تو قرآن کریم فرماتا ہے:

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ . (سورة الانبياء: ۸۷)

ان اندھیروں میں گھرنے کے بعد انہوں نے ہمیں پکارا، ہمیں پکار کر کہا کہ اے اللہ! آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اس کے نتیجے میں میں ان اندھیروں میں گھر گیا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اندھیروں میں گھر کر ہمیں پکارا تو ”فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ“ ہم نے ان کی پکار کو سنا، اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دیدی، آپ اندازہ کیجیے کہ کیسی زبردست گھٹن ہوگی، ہوا آنے کا راستہ مشکل، اگر ہوا آئے گی تو پھجلی کے سانس کے ذریعے آئے گی، جس میں بوبھی ہوگی، اور ایک انسان کے لیے ناقابل برداشت چیز ہوگی، اندھیرا ہوگا، اس گھٹن میں ہمیں پکارا تو ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دیدی ”و كَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِيْنَ“ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں، کیا معنی؟ کہ جب کبھی کوئی مومن کسی بھی اندھیرے میں گھرے گا، کسی بھی ظلمات میں گھرے گا، اور پھر ہمیں پکارے گا ”لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ“ تو ہم اس کو اس اندھیرے سے نجات عطا فرمادیں گے۔

اندھیرے سے پناہ کیوں؟

تو یہ جو خاص طور پر ”قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق“ کے بعد



اندھیرے سے اس لئے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لے کر دیکھیں، تو اندھیرا ہی اندھیرا مسلط ہے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، بد اعمالیوں کا اندھیرا، حرام خوروں کا اندھیرا چاروں طرف مسلط ہے، اس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس اندھیرے میں ہماری پناہ مانگو "قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب" ہر طرح کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم آج کے ماحول میں شکوے تو بہت کرتے رہتے ہیں، سیاست پر تبصرے ہو رہے ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرے ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے مجلسیں گرم ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کہ یا اللہ ہم گھر گئے ہیں اس اندھیرے میں، اپنی رحمت سے ہمیں پناہ دے دیجئے، ہمیں اپنی رحمت سے اپنے دامن رحمت میں لے لیجئے، اور یہ اندھیرا ہم سے دور فرما دیجئے، رورو کر دعا کرنے والے شاد و نادر ہیں، تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تبصرے کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ اختیار کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پناہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس گھٹن سے نجات عطا فرمادیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

گرہ پر پھونکنے والوں کے شر سے

"من شر النفثت فی العقد" میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کے شر سے جو

گرہوں پر پڑھ کر پھونکتے ہیں، یہ جادو کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ کوئی

دھاگہ لے لیا، کوئی رسی لے لی، اس پر گرہیں باندھیں، ایک گرہ باندھی اس پر پھونکا، پھر دوسری گرہ باندھی، پھر اس پر پھونکا، پھر تیسری گرہ باندھی، پھر پھونکا، یہ سب شیطانی قسم کے اعمال ہوتے ہیں جو جادو گروں کو شیطانوں نے سکھا رکھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کسی کے اوپر جادو کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچادی، کسی کے درمیان نفرت پیدا کر دی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی حرکتیں وہ گرہوں پر پھونک کر کرتے ہیں تو فرمایا کہ کہو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گرہوں میں پھونک پھونک کر گرہیں باندھتے ہیں، وہ جادوگر مرد ہوں یا عورت ہوں۔

### حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اور گرہیں

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا کہ یہ جادو فلاں جگہ ہے تو وہ ایک رسی تھی، یادھاگہ تھا جس پر گیارہ گرہیں باندھی ہوئی تھی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فلق اور سورہ الناس دونوں تلاوت کیں، ان دونوں میں گیارہ آیتیں ہیں، ہر آیت پر آپ ایک گرہ کھولتے گئے، یہاں تک کہ گیارہ کی گیارہ گرہیں کھل گئیں، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہو گیا جیسا کہ کسی قید سے آزاد ہو گیا ہوں، اس لئے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کے شر سے جو گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔

## حسد کرنے والوں سے پناہ

اور پھر آخر میں فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اشارہ اس طرف ہے کہ عام طور سے یہ جادو ٹونا جو لوگ کرتے ہیں، یہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آگے بڑھا دیا، اس کے پاس پیسہ زیادہ آگیا، یا اس کو شہرت زیادہ مل گئی، یا لوگوں میں وہ مقبول زیادہ ہو گیا، یا اس کو صحت اور توانائی عام لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ حاصل ہو گئی، تو اب لوگ اس کے اوپر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی پناہ مانگی کہ اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ ساری مخلوق سے اللہ کی پناہ مانگو، لیکن بعد میں خاص طور پر ان تین چیزوں کا الگ ذکر کیا، اس واسطے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے میں ان تین چیزوں کا خصوصی دخل ہوتا ہے، حسد بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے محمود کو تکلیف پہنچانے کے طریقے لوگ ایجا کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو تکلیف پہنچاؤں۔

## حسد کسے کہتے ہیں؟

یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے زائل کرنے کے لیے، اس کو اس سے دور کرنے کے لیے دل میں خواہش اور جذبہ پیدا ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں، مثلاً اگر کسی کے پاس پیسہ زائد آگیا تو دل میں خواہش ہو رہی ہے کہ پیسہ کم ہو جائے، اس کی آمدنی کم ہو جائے، یا ایک آدمی مشہور زیادہ ہو گیا، دل میں خیال یہ ہو رہا ہے لوگوں میں

اس کی مقبولیت کم ہو جائے، چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔

## رشک کرنا جائز ہے

ایک ہوتا ہے رشک، رشک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو نعمت حاصل ہے، دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ جیسی نعمت اس کو حاصل ہے ویسی مجھے بھی ہو جائے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر یہ رشک دین کے معاملے میں ہو، ایک آدمی کو علم زیادہ حاصل ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ویسا متقی بن جاؤں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی مضا لقمہ نہیں، ایک آدمی کا حافظہ اچھا ہے تو آدمی یہ سوچے کہ میرا بھی حافظہ ایسا ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں، نہ یہ گناہ ہے۔

## حافظ ابن حجرؒ کا رشک کرنا

حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدثین اور علماء میں سے ہیں، وہ جب مکہ گئے حج کرنے کیلئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمزم پیتے وقت آدمی جو دعا کرے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں:

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ

زمزم جس نیت سے پیا جائے، اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری فرمادیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زمزم پیا تو زمزم پیتے وقت میں نے یہ دعا کی یا اللہ! مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظہ عطا فرمادیتے، تو یہ رشک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی ناجائز بات نہیں، لیکن یہ جزبہ کہ دوسروں سے نعمت چھین جائے، مجھے ملے، یا نہ ملے،

یہ حسد ہوتا ہے، اللہ بچائے، یہ بہت بری بیماری ہے، بہت ہی بری بیماری ہے، اور بسا اوقات دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور آخر کا حسد کا انجام یہ ہے کہ آدمی حسد کی آگ میں جل جل کر خود ہی بھن جاتا ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو تکلیف پہنچا دوں، اس کی غیبت کرے گا، اس کی برائیاں کریگا، لوگوں میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، اور جادو کرے گا، ٹوٹکا کرے گا، اس قسم کے سارے شر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔

### غیر اختیاری خیال پر گناہ نہیں

یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر خیال پیدا ہو جانا کہ فلاں آدمی آگے بڑھ گیا، اس کی وجہ سے دل میں ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، یہ غیر اختیاری ہوتی ہے، انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا، غیر اختیاری طور پر دل میں خیال آ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس غیر اختیاری خیال پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے انشاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان کے اختیار سے باہر ایک بات آگئی، اگرچہ غیر اختیاری طور پر آیا اور گناہ نہیں ہے، لیکن خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ دل یہ بات اگر زیادہ دیر تک بیٹھ گئی تو پھر انسان کو اپنے اختیار سے ایسا کام کرنے پر مجبور کر دے گی جو گناہ ہوگا۔ کسی کی برائی دل میں آگئی کہ فلاں شخص بہت بڑھ رہا ہے، بہت چڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے دل میں گھٹن پیدا ہوگئی تو یہ گھٹن دل میں زیادہ دیر تک رہی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی وقت اس آدمی کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کی غیبت کرے

گا، اس کی برائی کرے گا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔

## غیر اختیاری خیال کا علاج

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے، ایک تو یہ خیال جو دل میں آیا ہے، اس کو دل سے برا سمجھے، یہ خیال جو میرے دل میں آیا ہے، اچھا خیال نہیں آیا، برا خیال آیا ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، یا اللہ! یہ میرے دل میں برا خیال آرہا ہے، میں اس پر استغفار کرتا ہوں، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اس کے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اس اچھائی میں زیادہ ترقی عطا فرما، اگر مال سے حسد ہو رہا ہے تو یا اللہ اس کو اور زیادہ مال عطا فرما، اگر شہرت سے حسد ہو رہا ہے تو یا اللہ اس کو اور زیادہ شہرت عطا فرما، اگر اس کی عبادت اور تقویٰ سے حسد ہو رہا ہے تو یا اللہ اس کو اور زیادہ عبادت اور تقویٰ کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کرے یہ بڑا مشکل کام ہے، جس کے دل میں حسد کے خیالات آرہے ہوں، وہ جب یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ! اس کو اور ترقی دے تو دل پر آرے چل جائیں گے، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ علاج یہ ہی ہے، چاہے وہ کڑوا گھونٹ معلوم ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں، مگر اس کے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما، اور تیسرے یہ کہ لوگوں سے اس کی تعریف کرے، یہ تین چیزیں ملیں گی کہ اس خیال کو برا سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس پر استغفار بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کے درجے اور بلند فرما دے، اور ترقی عطا فرما دے، اور لوگوں سے اس کی تعریف بھی کر رہا ہے تو انشاء اللہ یہ خیال خود اپنی موت مر جائے گا، اور انشاء اللہ حسد کا گناہ اور وبال اس کے سر پر نہیں رہے گا، یہ ہے اس شخص کا علاج جس کے دل

میں حسد کا خیال پیدا ہو رہا ہو اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر انسانوں میں غیر شعوری طور پر بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور جس شخص سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے لئے آیت کریمہ ہے کہ ”وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ“ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے تو انشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسد کے شر سے محفوظ رکھیں گے، چاہے وہ حسد کا شر جادو کی شکل میں ہو، عملیات کی شکل میں ہو، یا اور کسی طرح ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔

حاسد سے بدلہ نہ لو، معاف کر دو

اور یہ فرمایا کہ حاسد کے حسد کا جواب نہ دو، یہ نہیں کہ وہ حسد کی وجہ سے کوئی حسد کا کام کر رہا ہے، تم بھی دشمنی کا کام شروع کر دو، بلکہ اللہ کی پناہ مانگو، اور صبر سے کام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی کی پہنچائی ہوئی تکلیف پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی معیت عطا فرمادیتے ہیں ”إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ صبر کرنے والوں کو صبر کرنے کا اجر بے حساب دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ بس یہ کہہ دو ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ \* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ \* وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ \* وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ \* وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿ انشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی پناہ میں لے لیں گے اور ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ان تمام معاملات میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

# حسد کا علاج

سورۃ الفلق (۳)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز



مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ  
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ  
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## حسد کا علاج

تفسیر سورۃ الفلق (۳)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيَهُ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ اصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَ نَحْنُ عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ وَ الشُّكْرِیْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! پچھلے چھ سات ہفتے میرے سفروں میں

گزرے، اس لئے غیر حاضری رہی، اس سے پہلے قرآن شریف کی ان آیتوں کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا جو ہم کثرت سے نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق کا بیان پچھلے چند جمعوں میں ہوا ہے، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے مخلوقات کے شر سے، اور ان لوگوں کے شر سے جو دوسروں پر جادو کر نیکی فکر کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا،

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، گویا اس سورت میں حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حاسد کا شر کیا ہوتا ہے، حسد کیا ہوتا ہے، حسد کا شر کیا ہوتا ہے۔

### حسد کے معنی اور اس کے درجات

حسد کے معنی یہ ہیں کہ کسی دوسرے شخص کی اچھائی پر انسان کو دل میں کڑھن ہو کہ اس کو یہ اچھائی کیسے مل گئی؟ کسی کو مال و دولت زیادہ حاصل ہو گیا، اس کی وجہ سے دل میں جلن ہو رہی ہے کہ اس کے مال میں اتنا اضافہ کیوں ہو گیا؟ کسی کی شہرت زیادہ ہو گئی، لوگوں میں مقبولیت زیادہ ہو گئی، اس پر جلن ہو رہی ہے کہ یہ شخص لوگوں میں مقبول کیوں ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حسد، اور یہ بہت ہی بری بلا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ حسد کے کئی درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی اچھائی ملی، کوئی نعمت حاصل ہوئی، پیسہ زیادہ آ گیا، علم میں بڑھ گیا، شہرت اس کی

زیادہ ہوگئی وغیرہ وغیرہ تو اس کی اچھائی کی وجہ سے دل میں غیر اختیاری طور پر ایک کڑھن پیدا ہوتی ہے، یا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، یہ غیر اختیاری طور پر بعض اوقات خیال آجاتا ہے، اگر یہ خیال غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ غیر اختیاری ہے: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. لیکن ہے خطرناک، اس لئے اس کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، برا سمجھنا چاہیے، اس کی تفصیل آگے عرض کروں گا انشاء اللہ۔

### حسد کا دوسرا درجہ

دوسرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ تکلیف ہوئی اس کے آگے بڑھنے سے، بلکہ دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے، جو پیسہ زیادہ ملا ہے، وہ چھین جائے، کوئی مال اس کو زیادہ حاصل ہوا ہے، وہ چھین جائے، شہرت زیادہ حاصل ہوئی ہے، وہ شہرت چھین جائے، ساتھ میں دل میں یہ خواہش اور یہ آرزو بھی پیدا ہو رہی ہے اور شدت کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔

### حسد کا تیسرا درجہ

اور تیسرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ چونکہ دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کی یہ نعمت چھین جائے تو اس سے اس نعمت کو چھیننے کے لئے کوئی عملی کارروائی کرے، مثلاً حسد کی وجہ سے لوگوں سے اس کی برائی بیان کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یا اس پر بہتان باندھ رہا ہے، یا اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو منصب حاصل ہوا ہے وہ

منصب چھن جائے، اس کے بڑوں کے پاس جا کر شکایت کر رہا ہے، تاکہ یہ منصب اس سے چھن جائے، چغلی کھا رہا ہے، برائی بیان کر رہا ہے، تو یہ حسد کی وجہ سے کوئی عملی کاروائی گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کرے، اور گناہوں کا حاصل تو یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی وقت بھی تنبیہ ہو جائے، اور وہ توبہ کر لے، تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف توبہ واستغفار کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ بندہ جس کے خلاف تم نے کاروائی کی ہے، وہ معاف نہ کر دے، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی، اس واسطے اس کا گناہ بہت شدید ہے، عام گناہوں سے زیادہ سنگین ہے۔

### حسد کے پہلے دو درجوں کی حقیقت

اس میں سے جو پہلے دو درجے بتائے کہ دوسرے کی کسی اچھائی کے حاصل ہونے کی وجہ سے دل میں تکلیف ہوئی، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ تمنا بھی پیدا ہوئی کہ یہ چھن جائے، یہ دونوں باتیں غیر اختیاری طور پر ہو رہی ہیں، انسان اپنے اختیار سے اپنے دل میں نہیں لا رہا، بلکہ خود بخود بغیر اس کے یہ خیال آ گیا ہے، تو صرف اتنی بات پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، کیونکہ اس کا کوئی اثر عمل میں ظاہر نہیں ہوا، لہذا اس بات پر پکڑ تو نہیں کرتے، لیکن ہے یہ بڑی خطرناک، کیونکہ اگر یہ خیال جو غیر اختیاری طور پر آیا ہے، یہ زیادہ دیر دل میں بیٹھ گیا، اور پھر آدمی اپنے اختیار سے بھی

اس کو سوچنے لگا، تو اپنے اختیار سے اگر سوچے گا تو گناہ ہوگا، اور زیادہ دیر تک یہ خیال دل میں بیٹھا رہا تو کسی وقت اس کو اس بات پر آمادہ کر دے گا کہ جس سے حسد کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی کاروائی کرے، وہ کاروائی کسی بھی قسم کی ہو، اس کے خلاف پروپیگنڈہ کرے، اس کے خلاف لوگوں سے غیبتیں کرے، یا اس کی برائی بیان کرے، اس کی چغلی کھائے، اس کو اس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ..... یہ ساری کاروائیاں ہو سکتی ہیں، اور لوگوں کے بس میں اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو بعض اوقات جادو ٹونا شروع کر دیتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے کوئی جادو کا عمل ایسا کر دیں جس سے اسے تکلیف پہنچے، اور یہ سورۃ فلق جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ اسی قسم کے جادو کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ غیر اختیاری خیال اگر زیادہ دیر دل میں بیٹھ گیا، اور اس کی کھجڑی انسان اپنے دل و دماغ میں پکا تار بنا، تو کسی وقت اس کو وہ ناجائز اور حرام کاروائی پر بھی آمادہ کر دے گا، اس واسطے یہ ہے خطرناک، اگر خیال بھی آ رہا ہے اور غیر اختیاری طور پر بھی آ رہا ہے تو یہ خطرناک ہے۔

### دو طریقوں سے اس کا علاج

اس لئے امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے جو بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، اور تصوف اور سلوک کے بھی ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کا غیر اختیاری خیال دل میں آ رہا ہو، تو اگرچہ اس پر فوری طور سے مواخذہ اور گرفت نہیں ہے، لیکن اس کا علاج کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے اور ہے یہ ایک بیماری، غیر اختیاری

بیماری ہے لیکن بیماری ہے اس بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور علاج انہوں نے فرمایا ہے کہ دو چیزوں سے علاج کرنا ہوگا، ایک علاج اس کا یہ ہے کہ یہ جو خیال اس کے دل میں آرہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، تمنا ہو رہی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس خیال کو برا سمجھے کہ بھئی! دل میں یہ جو خیال آرہا ہے یہ اچھا خیال نہیں ہے، اور برا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ یا اللہ! میرے دل میں یہ خیال آرہا ہے، یہ اچھا خیال نہیں ہے، اے اللہ! مجھے اس سے محفوظ رکھ، اور مجھے اس سے بچالے، ایک تو یہ اہتمام کرے آدمی کہ اس خیال کو برا سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے اس خیال کو دور ہونے کی دعا کرے۔

### دوسرا علاج اس کے حق میں دعا کرے

اور دوسرا عمل جو کڑوی گولی ہے لیکن اس کے بغیر اس بیماری کا علاج نہیں ہوتا، وہ یہ کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے حسد ہو رہا ہے، اس کے حق میں خوب دعا کرے، مثلاً اس کے مال و دولت سے حسد ہو رہا ہے تو خوب دعا کرے کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا فرما، اس کے مال میں اور ترقی عطا فرما، اگر اس کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، منصب مل گیا ہے تو یا اللہ اسکے عہدہ اور منصب میں اور ترقی دے، اگر اس کی شہرت اور مقبولیت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے تو دعا کرے کہ یا اللہ اس کی شہرت میں اور اضافہ فرما، اس کی مقبولیت میں اور اضافہ فرما، جب یہ دعا کرے گا تو دل پر آ رہے چل جائیں گے، کیونکہ دل تو اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے، لیکن دعا

یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ اسکو یہ اور حاصل ہو، اور ترقی ہو، تو اسکے نتیجے میں جو دل پر آ رہے چلیں گے، یہ اس بیماری کا علاج ہوگا۔

## لوگوں کے سامنے اس کی تعریف

اور اسی کے ساتھ یہ کام بھی کرے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرے، دوسرے لوگوں میں اس کی اچھائیاں بیان کرے، اس کے جو اچھے اوصاف ہیں وہ بیان کرے، یہاں پر بھی آ رہے چل جائیں گے، دل میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگوں میں بدنام ہو، اور اس کی لوگ تعریف کرنے کے بجائے لوگ برائی کریں، لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو اس سے پھر دل پر آ رہے چلیں گے، لیکن آ رہے چلنا ہی علاج ہے اس بیماری کا، یہ عمل حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا ہے اور گویا یوں سمجھو کہ یہ علاج اس بیماری کا تریاق ہے۔

## ہر شخص کا یہ حال ہے

دیکھئے! آج کی دنیا میں ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے بارے میں اس قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، اور یہ بہت بڑی بیماری کی نشانی ہے، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے، اسکے نتیجے میں یہ بیماری بڑھ جاتی ہے، اور آگے چل کر لا علاج ہو جاتی



## حسد کرنا تقدیر پر شکوہ کرنا ہے

دیکھو! سوچنے کی بات یہ ہے کہ حسد درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہے، اسے یہ نعمت کیوں مل گئی، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ میاں! آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دیدی؟ اے اللہ! آپ نے کیوں اس کو منتخب کر لیا اس نعمت کے لئے؟ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے، اس واسطے بڑی خطرناک چیز ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حسد کرنے والا خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اس محسود کو جس سے وہ حسد کر رہا ہے، اس کو تو کوئی نقصان نہیں، لیکن حاسد دل میں کڑھ رہا ہے، اس کے دل میں جلن ہو رہی ہے، اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، جلن کڑھن میں ختم ہو جاتا ہے، نقصان اس کا صرف حسد کرنے والے کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں پہنچتا، لہذا اس سے نجات حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، اور نجات حاصل کرنے کا راستہ وہی ہے جو امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسکے حق میں خوب دعا کیا کرے کہ یا اللہ! اسکے درجات اور بلند کر، اسکو اور نعمتوں سے سرفراز فرما، اس کو اور نعمتیں عطا فرما دے اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرے اس کی اچھائیاں بیان کرے، انشاء اللہ علاج ہو جائے گا۔

## حسد کا تیسرا درجہ

تیسرا درجہ حسد کا جو ہے، اللہ بچائے، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، وہ یہ کہ اس حسد کی وجہ سے حاسد کسی شخص کے خلاف کوئی کاروائی کرے، اس کی برائی بیان

کر رہا ہے مجمع کے اندر، اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اس کے خلاف پرو پیگنڈہ کر رہا ہے، اس کے خلاف ایسی کارروائی کر رہا ہے جس سے وہ اپنی موجودہ نعمت سے محروم ہو جائے، اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

میں حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کی کارروائی کرے، حاسد کا شر کیا ہے؟ حاسد کا شر یہ ہے کہ وہ حسد کی بناہ پر کوئی کارروائی کرے، اگر وہ عملی کارروائی نہیں کرتا، بلکہ دل ہی دل میں کڑھ رہا ہے تو اس کا نقصان تو ہمیں کچھ نہیں پہنچتا، اس کا نقصان تو اس کو پہنچے گا، لیکن اگر حسد کی بناہ پر وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے تو یہ اس کا شر ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

حسد کی وجہ سے کون ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے

جب ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سے کون حسد کر رہا ہے اور حسد کی بناہ پر کیا کارروائی کر رہا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، اگر پتہ ہو تو کچھ اس کا تدارک بھی کرے، لیکن حاسد کی کارروائیاں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں لگتیں، اس واسطے اس سورۃ میں فرمایا گیا جہاں اور سب مخلوقات سے پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہاں حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگو، کیونکہ تمہیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس کے خلاف کیا کارروائی کر رہا ہے؟ اور کس سے حسد پیدا ہو رہا ہے؟ اور کون ہے جو حسد کی وجہ سے اس کی مخالفت پر تولا

ہوا ہے؟ یا اسکے راستے میں روٹھے اٹکارہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لئے اس سورۃ کے ذریعہ پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اس آیت میں یہ بھی واضح فرمایا گیا کہ حسد ایک بہت بری بیماری اور ایک بہت بری بلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ! میرے دل میں کسی بھی دوسرے کے خلاف حسد پیدا نہ ہو۔

### رشک کرنا جائز ہے

یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی کسی نعمت کو دیکھتے ہوئے یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھین جائے، یہ ہے حسد، اور ایک یہ ہوتا ہے رشک، رشک اسے کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے تو آدمی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ یہ نعمت جیسی اس کو ملی ہے، یا اللہ! مجھے بھی دیدے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یا اللہ! جیسا علم اس کو دیا گیا ہے، ویسا علم مجھ کو بھی دیدے، جیسا تقویٰ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو ہے، ویسا مجھ کو بھی مل جائے، جیسی دولت اس کو ملی ہے، مجھ کو بھی مل جائے، اس قسم کی باتیں محض ایک حد تک ہوں کہ اس کو جو نعمت ملی ہے، اس کے پاس بھی رہے، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی مل جائے، اس کو حسد نہیں کہتے، یہ حسد نہیں ہوتا، یہ رشک ہوتا ہے، اس کو حدیث میں غبطہ کہا گیا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں، البتہ رشک کرنا چاہیے اچھی چیزوں میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے اندر رشک کرنا چاہیے، اور جو برائیاں ہیں، ان کے اندر رشک نہیں کرنا چاہیے، معاذ اللہ کسی شخص کو کسی فسق و

فجور کی وجہ سے دولت مل گئی، اب اس کو رشک آرہا ہے تو یہ رشک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ گناہ کے اندر رشک ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی جائز کام ہے تو اس میں رشک کوئی برا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔

## حافظ ابن حجر کی دعا

حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لئے گئے تو حدیث

میں ہے:

مَاءٌ زَمَزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ

جب آدمی زم زم کا پانی پیتا ہے تو اس کو پیتے وقت جو دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو حضرت حافظ ابن حجر نے دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ مجھے حضرت حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ علیہ جیسا حافظہ دے دیجئے، یعنی جیسا ان کا حافظہ تھا، ایسا ہی حافظہ ان کو بھی مل جائے تو یہ رشک ہے، اس میں کوئی مزاائقہ نہیں، ہاں اگر یہ ہوتا کہ ان سے چھن جائے تو یہ حسد ہوتا، لیکن ان کو تو ملا ہی ہے، اے اللہ! مجھے بھی دید دیجئے، تو اس میں کوئی مزاائقہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، اور اس کی دعا کرنے میں بھی کوئی مزاائقہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے، اور اس قسم کے اگر خیالات آتے ہیں، یا آجئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انکو معاف فرما دے اور انکو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

# الولاية

شرح شرح الوقاية (مکمل ۴ جلدیں)

شرح اردو شرح الوقاية (آخرین)

وفاق المدارس کے نصاب میں شامل

”شرح وقایۃ (آخرین) کی بہترین اردو شرح

قیمت: =/1100 روپے

مہاسا پبلشرز

# سورة الناس کی اہمیت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## سورة الناس کی اہمیت

(۱)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَدَنَا وَ نَبِيَّتَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۱ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۲ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۳ الَّذِي يُّوسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۴ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۝۵ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَ نَحْنُ عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ وَ الشّٰكِرِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

تمہید

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! یہ قرآن کریم کی آخری سورۃ ہے، جسے سورۃ



الناس کہا جاتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ یاد ہوتی ہے، بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے سورۃ الفلق ہے، اور پچھلے کچھ بیانات میں سورۃ الفلق کی بقدر ضرورت تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں سورتیں: قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ہی ساتھ نازل ہوئیں، اور اس وقت نازل ہوئیں جب کچھ یہودیوں نے حضور نبی کریم سرور دو عالم ﷺ پر جادو کیا تھا، اور اس جادو کے نتیجے میں سرکار دو عالم ﷺ کو یہ تکلیف ہو گئی تھی کہ بعض اوقات آپ نے کوئی کام کر لیا ہوتا، مگر یہ خیال ہوتا کہ نہیں کیا، اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کے ذریعے نبی کریم ﷺ کو اس بات سے باخبر فرمایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر اس جادو کے توڑ کیلئے یہ دو سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور جس شخص نے جادو کیا تھا، اس نے کنویں میں بالوں کے اندر گرہیں باندھ کر جادو کیا تھا، نبی کریم سرور دو عالم ﷺ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا، تو آپ ان دونوں سورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، پھر دوسری آیت پڑھتے اور پھر دوسری گرہ کھولتے، یہاں تک کہ ساری کی ساری گرہیں کھل گئیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اس جادو کے اثر سے آپ کو محفوظ رکھا، اس میں سے پہلی سورۃ سورۃ الفلق کی تفسیر پچھلے چند بیانات میں تفصیل کے ساتھ الحمد للہ بیان ہو چکی ہے۔

### سورۃ الناس کا ترجمہ

اس دوسری سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم ﷺ سے اللہ

تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں: قل اعوذ برب الناس . کہو! میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے: ملك الناس . جو سارے انسانوں پر بادشاہت رکھے ہوئے ہیں: الہ الناس . جو سارے انسانوں کا معبود ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں: من شر الوسواس الخناس . اس شیطان کے شر سے جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور پیچھے ہٹ جاتا ہے: الذی یوسوس فی الصدور الناس . من الحنتہ و الناس . چاہے وہ شیطانی عمل کرنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔

## دونوں سورتوں میں تقابل

آپ دونوں سورتوں میں تھوڑا سا مقابلہ کر کے دیکھیں، تو پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر پناہ مانگتا ہوں، وہ چاہے انسان ہوں، وہ تکلیف پہنچانے والے دشمن ہوں، وہ جنات ہوں، چاہے وہ موذی جانور ہوں، چاہے وہ اور کوئی مخلوق ہو جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہے، ان سب کے شر سے، اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس سورت میں یہ فرمایا گیا ہے، اور یہ سورۃ الناس جو ہے، یہ خاص طور سے وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لئے ہے، تو پہلی سورت میں درحقیقت انسان کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، ہر اس مصیبت سے، یا ہر اس تکلیف سے جو اسے کسی بھی مخلوق سے پہنچے، مثلاً کوئی دشمنی پر آمادہ ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، حسد کرنے والا ہے، حسد کر رہا ہے، حسد کی وجہ

سے تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اور کوئی دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، یا جانور ہے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، ان سب کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، تو اس میں درحقیقت پناہ مانگی گئی ہے ان مصیبتوں سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے جسم کو پہنچتی ہیں، یا پہنچ سکتی ہیں اور اس سورۃ الناس میں پناہ مانگی گئی ہے، ان لوگوں کے شر سے جو دنیا میں تو نقصان چاہے خاص نہ پہنچائیں، لیکن آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں کہ دل میں وسوسہ ڈال کر انسان کو کفر میں مبتلا کر دیں، شرک میں مبتلا کر دیں، اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا کر دیں، معصیتوں کا عادی بنا دیں، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو اگر خلاصہ دیکھا جائے تو سورۃ الفلق میں پناہ طلب کی گئی ہے، ان نقصانات سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے ظاہری جسم پر دنیا کے اندر پیش آئیں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورۃ الناس میں اس نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے، جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے، اس کی آخرت تباہ کر دے، دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عجیب ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔

### سورۃ الفلق میں ایک صفت اور تین صورتوں سے پناہ

وہاں: قل اعوذ برب الفلق . میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے: قل اعوذ برب الفلق . میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو پو پھٹنے کی مالک ہے، یعنی صبح کی مالک ہے، صبح کے وقت کی مالک ہے، صرف ایک صفت ذکر فرمائی جس

کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جیسے صبح ہوتی ہے تو ظلمت چھٹ جاتی ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اندھیرے کو دور کرنے والا، ہر تاریکی کو دور کرنے والا، ہر شر کو دور کرنے والا، وہاں صرف ایک صفت بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب الفلق، اور جن سے پناہ مانگی گئی ہے، ان کی تین صورتیں ذکر کی گئی ہیں: ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفتث فی العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔

### سورۃ الناس میں تین صفات اور ایک چیز سے پناہ

اور سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں بیان کی گئیں: قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. اله الناس. اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ ایک ہی ہے: من شر الوسواس الخناس. تو تین صفتوں کا حوالہ دے کر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہاں ایک صفت کا حوالہ دے کر تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔

### عجیب و غریب اشارہ

اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے، واللہ سبحانہ اعلم، کہ دنیاوی نقصان پہنچانے والے متعدد ہیں، بہت سے ہیں، کوئی دشمن ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی تکلیف پہنچانے والا آدمی ہے وغیرہ وغیرہ..... بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس میں جادو گر ہیں، چونکہ ان کا نقصان دنیا تک محدود رہے گا، اور دنیا ہی کی حد تک اس کا اثر ظاہر ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کافی ہے، برخلاف سورۃ

الناس کے، وہاں ذکر ہے اس نقصان کا جو کوئی انسان کو آخرت میں پہنچائے، شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالے، اور اس وسوسوں کے نتیجے میں انسان اللہ بچائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفر اور ارتداد میں مبتلا ہو جائے تو ساری آخرت ہی تباہ ہو گئی اور اگر کفر نہیں تو گناہ کا وسوسہ ڈال دے، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، اور انسان اس وسوسہ کی تعمیل میں گناہ کر بیٹھے تو چاہے پوری آخرت تباہ نہ ہو، لیکن ایک مدت تک اس کو جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور جہنم کا عذاب دنیا کی تکلیفوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے، ساری زندگی انسان تکلیفوں میں مبتلا رہے، ایک ذرہ برابر اسکو خوشی نہ ملے تو وہ ہلکا ہے، بہ نسبت اس کے کہ تھوڑی دیر جہنم میں چلا جائے، جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، اس لئے آخرت کی تکلیف، آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے، لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں بیان فرمائی گئیں، پناہ مانگو، اس ذات سے جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے، جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، جو تمام انسانوں کا معبود ہے، اسکی پناہ مانگو، اس کے حوالے سے پناہ مانگو کہ اے اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں، آپ نے پیدا کیا، آپ ہی نے پالا پوسا، آپ ہی نے پرہان چڑھایا، اور آپ ہی کی سلطنت ہے تمام کائنات پر اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، اور آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں اس شیطان سے اپنی پناہ میں رہیے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

### حفاظت پر دلالت کرنے والی صفات

اور تین صفتیں وہ ذکر کی گئی ہیں، جو حفاظت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، رب

کے کیا معنی، وہ ذات جو پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، پروردگار ہے، تو جب کوئی کسی کو پالتا ہے، جیسے ماں بچہ کو مالتی ہے، باپ بچہ کو پالتا ہے، تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر دم اس کو اپنی آنکھ کے سائے میں رکھتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اسی طرح اگر کوئی بادشاہ ہو اور صحیح معنی میں بادشاہ ہو، صحیح معنی میں حکمران ہو تو وہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچ جائے، اور جب وہ معبود ہے تو جو بندہ اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی وہ حفاظت کرتا ہے، جو میری عبادت کرتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، تو یہ تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ذکر فرمائی گئی ہیں، کہ جو حفاظت کا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہیں کہ ہم تو آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔

### تین صفات میں عجیب نکتہ

اور بعض علماء کرام نے اس میں یہ نکتہ بھی ذکر کیا ہے کہ: برب الناس . ملك الناس . اله الناس . میں جو اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں ذکر کی گئی ہیں تو رب سے اشارہ ہے، انسان کے بچپن کی طرف کہ بچپن میں اس کی نشوونما کا دور ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں تو: برب الناس . یہ ہے بچوں کے لئے، بچپن کے لئے: ملك الناس . یہ ہے جوانوں کے لئے کہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں آیا ہوں، اور جب بڑھا پا ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، عبادت میں زیادہ لگتا ہے: اله الناس . تو اس وقت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا، تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تین صفتوں کا

حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اس ذات سے جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے، سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، سارے انسانوں کا معبود ہے، پناہ کس سے مانگتا ہوں: من شر الوسواس الخناس۔ اس شیطان کے شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ صفت بیان کی ہے شیطان کی، اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔

### شیطان کا وسوسہ ڈالنا

حدیث میں تفصیل یہ آئی ہے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس طرح لگا ہوا کہ وقتاً فوقتاً جہاں اس کو موقع ملتا ہے انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا رہتا ہے، یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو، کوئی نامحرم سامنے آیا، تو وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لذت لے لو، کوئی بات کسی کی نکلی تو اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ غیبت کر لو، کوئی موقع آیا تو دل میں ڈالتا ہے کہ جھوٹ بول جاؤ، کوئی موقع آیا تو کہتا ہے کہ چلو بھی نماز چھوڑ دو، غرض مختلف قسم کے گناہوں کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے۔

### پیچھے ہٹ جانے کا مطلب

اور پیچھے ہٹ جانے کے کیا معنی کہ وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہیں کہ وسوسہ ڈالتا تو ہے، اور ترغیب دیتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو، لیکن یہ دل میں ڈال کر اور آدمی کو غلط راستے میں لگا کر خود بھاگ جاتا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ میں نے تمہیں ورغلا یا تھا، لہذا تمہارا عذاب میں بھگت لوں گا، نہیں بس غلط راستے پر ڈال کر خود الگ ہو جائے گا، اور انسان کو اس

میں مبتلا کر دے گا، ایک تو اس کے معنی یہ ہیں، اور دوسرے معنی حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، کہ شیطان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں برے برے خیالات، برے برے ارادے پیدا کرتا ہے۔

## ذکر اللہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے

لیکن ان ارادوں کے پیدا کرنے کے بعد جوں ہی اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے تو شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے وسوسے سے زیادہ مت ڈرو، یہ ہے تو خطرناک، اگر وسوسہ کام کر گیا تو تمہاری آخرت تباہ کر دے گا، لیکن زیادہ ڈرنے کی بات نہیں کیونکہ یہ وسوسہ ڈالتا ضرور ہے، لیکن جوں ہی تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، یہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ معنی ہیں، الوسواس الخناس، اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا۔

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نِزْغٌ فَالْسُّتَعِدَّ بِاللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ

(حم سجدہ: ۳۶)

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

ترجمہ: ”جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی کچوکہ لگے“ قرآن کریم نے کچوکہ لگنے کا لفظ استعمال کیا، یعنی تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، یا کوئی برا ارادہ ڈالے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو، یا اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ شیطان میرے دل میں یہ باتیں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ کی



طرف رجوع کر لو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے نتیجے میں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں، یہ پیچھے ہٹ جائے گا، پھر یہ تمہیں آگے جا کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر بندہ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے گا، لیکن اگر اس موقع پر تم اللہ کو یاد کر لو، اللہ کی پناہ لے لو، اللہ سے پناہ مانگ لو تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، اور پھر جب موقع ملے گا دوبارہ آئے گا، پھر کسی موقع پر پھر وسوسہ ڈالے گا، پھر اللہ کی پناہ لے لو گے پھر ذکر کر لو گے پھر پیچھے ہٹ جائے گا۔

### خَنَّاس کے معنی بہت پیچھے ہٹنے والا

اور دیکھو یہاں قرآن کریم نے فرمایا خَنَّاسٌ. خَنَّاسٌ کے معنی ہیں بہت پیچھے ہٹنے والا، ایک تو ہوتا ہے خَنَّاسٌ یعنی ایک مرتبہ پیچھے ہٹنے والا، اور خَنَّاسٌ کے معنی بہت پیچھے ہٹنے والا، یعنی بار بار پیچھے ہٹنے والا، کیا معنی بار بار حملے کرتا ہے، اور بار بار پیچھے ہٹتا ہے، ہر حملے کے موقع پر آسان علاج یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ! یہ دل میں خیال ڈال رہا ہے، مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دیجئے، اور مجھے ہمت دے دیجئے، اور مجھے طاقت دے دیجئے، کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پیچھے ہٹ جائے گا، اسی لئے فرمایا:

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء: ۷۶)

ترجمہ: ”شیطان کی تدبیریں بڑی کمزور ہیں“ یہ انسان کے اوپر مسلط تو رہتا

ہے، لیکن جہاں ذرا آدمی جم گیا اس کے مقابلے پر تو یہ بھاگ جاتا ہے، پھر اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔

## شیطان کے زہر کا تریاق

دیکھو! اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور حکمت سے یہ بات بعید ہے، کہ وہ زہر پیدا کرے، اور تریاق نہ بتلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کوئی بیماری پیدا کی ہے، اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، جو زہر پیدا کیا ہے، تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، تو جب شیطان کو پیدا کیا تو شیطان انسان کیلئے زہر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی رحمت سے، اس کی حکمت سے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ زہر تو پیدا کرے، اور تریاق نہ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا تریاق پیدا کیا ہے۔

## ایک زہر یلا پودا اور اس کا تریاق

ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا، جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے قریب گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی، منظر بہت اچھا تھا، تو ہم نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں پر رک جائیں، تو تھوڑی دیر رک کر چلیں گے، قریب میں سامنے ایک درخت نظر آیا، چھوٹا سا درخت تھا، اس کے پتے بڑے خوبصورت تھے، اور ایسے لگ رہے جیسے مخمل کے پتے ہوں، تو میں اس کی طرف بڑھا اور اس کو ہاتھ لگانے لگا، وہ جنگلی پودا تھا، میں نے اس کو ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا، دیکھنے کے لئے کہ کیسا ہے، میرے جو ساتھی تھے انہوں نے مجھے ایک دم زور سے روکا کہ مولانا! اس کے قریب نہ جائیے، میں نے پوچھا کہ بھی

کیوں؟ کہا کہ یہ ایسا پودا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ تو اس سے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے بچھو کے کاٹنے سے، اگر اس کو ہاتھ لگا لے انسان تو جیسے بچھو کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اس لئے اسے ہاتھ نہ لگائیے گا، میں بڑا حیران ہوا، اور ساتھ ہی میں کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، آپ نے مجھے بتا دیا تو میں اس سے رک گیا، نجانے کتنے لوگ اجنبی جو گزرتے ہوں گے تو وہ ہاتھ لگالیں گے اور انہیں تکلیف پہنچ جائے گی، مگر انہوں نے کہا کہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جہاں یہ پودا ہوتا ہے، اسی کی جڑ میں ایک اور پودا نکلتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگاتے ہی ساری تکلیف دور ہو جائے گی، میں نے کہا کہ: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ جو زہر پیدا فرمایا تو اس کا تریاق بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت اور حکمت کا معاملہ یہ ہے، تو اس وقت مجھے ایک یہ عبرت ہوئی کہ دیکھو کہ یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت پودا ہے، کتنا حسین ہے کہ بے ساختہ دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، دیکھنے میں بڑا حسین ہے، لیکن اتنا خطرناک اور اتنا زہریلا ہے کہ بچھو کے کاٹنے جیسی لہریں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔

### گناہ خوبصورت زہریلے پودے کی مانند ہیں

تو یہ دنیا میں جتنے گناہ ہیں، ان سب کی ایک مجسم مثال یہ پودا ہے کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، بڑی لذت حاصل ہوگی، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ زہریلے ہیں، وہ بچھو کے کاٹنے جیسے ہیں، ایک تو یہ سبق ملا، دوسرا سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں

کوئی زہر پیدا کرتے ہیں، اس کا تریاق بھی پیدا فرماتے ہیں، اس کے ازالے کی تدبیر بھی عطا فرمادیتے ہیں، تو جب شیطان کو پیدا کیا جو انسان کے لئے ایک زہر تھا، تو اس کا تریاق بھی اتنا آسان بنا دیا، اس کا تریاق یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو اس کی پناہ میں آ جاؤ، جب شیطان تمہارے دل میں کچھ لگانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو، یا اللہ! میرے دل میں یہ خیال آرہا ہے مجھے اس سے بچالے، شیطان کے شر سے بچا لیجئے، اگر پہلے خیال آجائے تو پہلے پناہ مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، اور اگر خدا نہ کرے اس شیطان کے شر سے متاثر ہو کر، مغلوب ہو کر گناہ کا ارتکاب کر لیا تو تریاق یہ ہے کہ توبہ کرو اور کہو:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اے اللہ! میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار اور توبہ کر لو تو یہ تریاق ہے اس کا، ایک طرف شیطان کا شر ہے اور بڑا خطرناک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا طریقہ دونوں طرف رکھا ہوا ہے، دائیں بھی اور بائیں بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی، آگے یہ کہ پناہ مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور پیچھے یہ کہ اگر مبتلا ہو ہی گئے تو پھر توبہ و استغفار کر لو: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. جو توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گناہوں سے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، تو یہ مفہوم ہے: من شر الوسواس الخناس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

# إِصْلَاحِي خُطَبَاتٌ

(مکمل ۱۸ جلدیں)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

کے ۲۳۹ خطبات پر مشتمل مقبول کتاب

خاص ایڈیشن : =/6300 روپے

عام ایڈیشن : =/4000 روپے

میں اسلام پبلشرز

المناد

# خیالات اور وہم کا علاج

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم

ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ مبین

مبین اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ  
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## خیالات اور وہم کا علاج

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُوْلَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ \* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ \* قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* اِلٰهِ النَّاسِ \* مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذِيْ يُّوسَسِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ \* مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ \* اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ. وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِیُّ الْكَرِيْمِ. وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ وَ الشّٰكِرِيْنَ.

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے، جو میں



نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اس کی کچھ تشریح میں نے پچھلے جمعہ میں شروع کی تھی، اور اس کا پس منظر یہ بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اس موقع پر یہ دو سورتیں نازل ہوئی تھیں ”قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس“ جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، پہلی سورت کا بیان الحمد للہ مکمل ہو گیا تھا، اور دوسری سورت سورۃ الناس کی تشریح میں نے پچھلے جمعہ میں شروع کی تھی۔

### سورۃ کا ترجمہ

ترجمہ سورۃ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ”قل“ تم یہ کہو کہ: ”اعوذ برب الناس“ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے ”مَلِكِ النَّاسِ“ جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے ”اِلٰهِ النَّاسِ“ جو تمام انسانوں کا معبود ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے ”مَنْ شَرُّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ“ اس مخلوق کے شر سے جو وسوسہ ڈالتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے یعنی شیطان، شیطان کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلسل انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔

### وسوسے کی قسمیں

وسوسے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات وسوسے گناہوں کے

ہوتے ہیں کہ تم فلاں گناہ کر لو، فلاں چیز جو ناجائز ہے وہ دیکھ لو، فلاں بات جو ناجائز ہے وہ سن لو، فلاں بات جو ناجائز ہے وہ زبان سے کہہ دو، فلاں کام جو ناجائز ہے وہ کر لو، اس قسم کے وسوسے گناہ میں مبتلا کرنے کے ڈالتا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایمان کے بارے میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، پتہ نہیں کہ اللہ میاں موجود ہیں کہ نہیں، مثلاً یہ وسوسہ کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم نے جو باتیں سنی ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں، اس قسم کی باتیں اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو شیطان تو لگا رہتا ہے اس کام میں کہ انسان کے دل میں مختلف وسوسے ڈالے، لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایسے وسوسوں کے موقع پر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے ”من شر الوسوس الخناس“ اس لئے فرمایا گیا کہ ہے تو وسوسے ڈالنے والا لیکن کمزور بھی بہت ہے، ذرا انسان اس کے آگے ڈٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آگے اس کی صفت بیان فرمائی کہ ”الذی یوسوس فی صدور الناس“ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر آخر میں فرمایا کہ ”من الجنة والناس“ یعنی یہ وسوسے ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہیں، یعنی شیاطین اور انسانوں میں سے بھی ہیں، کہ بعض انسان وہی کام کرتے ہیں جو شیطان کا کام ہے، تو اے اللہ! میں ان دونوں کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس پوری سورت میں درحقیقت انسان کو وسوسوں سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور اس کے لئے اللہ کی پناہ مانگنے کی دعوت دی گئی ہے۔

## دل و دماغ ہر وقت سوچتے ہیں

جیسا میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ انسان کا دل و دماغ یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں، کوئی لمحہ انسان کا ایسا نہیں ہے، جس میں کوئی نہ کوئی خیال نہ آ رہا ہو، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی خیال آتا رہتا ہے، یہ خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور شیطان چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، اور انسانی شکل میں سب سے بڑا شیطان انسان کا اپنا نفس ہے، سارے گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے، ابلیس کی وجہ سے نہیں ہوتے، بہت سے گناہ انسان کی اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو انسان کے دل میں یہ خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟ اور ان کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے، اور کس طرح ان کے شر سے بچا جاسکتا ہے، وہ اس سورت کا موضوع ہے۔

## دو قسم کے وسوسے

یہ وسوسے جو انسان کے دل میں آتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو اللہ بچائے ایمان وغیرہ سے متعلق آنے لگتا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے خواہ کتنا بھی بڑا مسلمان ہو، کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، کبھی نہ کبھی اس کے دل میں کوئی خراب قسم کے وسوسے نہ آئے ہوں، دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر،

لیکن کبھی کبھی شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ باتیں صحیح بھی ہیں یا نہیں؟ اس قسم کے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، یہ وسوسہ اگر زیادہ پیچھے پڑ جائے تو پھر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔

یہ وسوسہ ایمان کی علامت ہے

لیکن حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں تو بہت سخت پریشان ہوں، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں بعض اوقات ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان سے نکالنا اپنے جل کر کونلہ ہو جانے سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں، یعنی خیالات تو آرہے ہیں بار بار، لیکن وہ اتنے برے ہیں کہ مجھے جل کر کونلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ میں وہ باتیں زبان سے ادا کروں، ایسے خیالات مجھ کو آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اس سے بالکل پریشان مت ہو ”ذاك صريح الايمان“ یہ تو عین ایمان کی علامت ہے، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہی اس شخص کے دل میں ہے جو مومن ہو، اگر کوئی آدمی کافر ہے تو شیطان کو اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی اس کا مطیع ہے، اس کا پیروکار ہے، اور وہ کفر میں مبتلا ہے، وہ تو پہلے ہی سے مبتلا ہے، وہ شیطان کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اس کے پاس کیوں جائے گا، وہ تو آتا ہی صاحب ایمان کے پاس ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس وہ جاتا ہے، تاکہ اس کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اور خوب سمجھ لو کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ

ان کو زبان سے نکالنا جل کر کوئلہ ہو جانے سے زیادہ بدتر معلوم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے تمہارے دل میں جب یہ ایمان موجود ہے، تو ان وسوسوں کے آنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔

## چور مال والے گھر میں آتا ہے

ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین..... ایسا قصہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا کہ کسی نے آکر ان سے عرض کیا کہ حضرت میں کیا کروں مجھے تو سخت پریشانی ہو گئی ہے، دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، کفر کے شرک کے، ان سے میں سخت پریشان ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے مؤمن ہونے کی علامت ہے، اور دیکھو! چور ڈاکو اسی گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو، چور ڈاکو وہیں جائے گا جہاں کچھ مال ہوگا، جہاں مال ہی نہیں، خالی ہے تو چور ڈاکو وہاں کیوں جائے گا؟ تو شیطان بھی اس جگہ جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، ایمان کا مال ہوتا ہے، ایمان کی دولت اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ چھیننے کے لئے جاتا ہے، اگر العیاذ باللہ کافر ہے تو اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، ایمان کی دولت ہے ہی نہیں تو وہاں جا کر اس کو کیا ملے گا؟ یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے، گھبراؤ نہیں پریشان مت ہو، اور اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی اس سے بے پروا ہی برتے، اس سے کچھ زیادہ پریشانی کا اظہار بھی نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا:

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ

شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

(المجادلة: ۱۰)

باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو سرگوشی کرتا ہے ”نجوا“ کے معنی ہیں سرگوشی، یعنی تمہارے دل میں یہ دوسے ڈالتا ہے، تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، صدمے میں مبتلا کرے، اس لئے اس قسم کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، اس قسم کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، اور قرآن نے واضح کہہ دیا کہ ”وَلَيْسَ بِضَارٍّ هُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“ یہ مؤمنوں کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر اللہ کا حکم ہو جائے تو بات دوسری ہے، مگر اللہ میاں ظالم نہیں ہیں جو بلا وجہ بندہ کو شیطان کے ہاتھوں میں مغلوب کر دیں، اور شیطان کے ہاتھوں میں مقید کر دیں، اس لئے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اس لئے عرض کر دیا کہ بہت سے صاحب ایمان کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے شک کے وسوسے آنے لگتے ہیں، اور اس سے وہ گھبرا جاتے ہیں، قرآن و حدیث نے واضح طور پر اس کی نفی کر دی، کہ گھبرانے کا موقع نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں، اگر صرف وسوسے کی حد تک خیال آ رہا ہے تو آنے دو، خود ختم ہو جائیں گے۔

## ان وسوسوں کا علاج

ہاں البتہ اس صورت میں ان وسوسوں کا علاج وہی ہے جو اس سورت میں

بتایا گیا کہ یہ کہو: قل اعوذ برب الناس • ملك الناس • اله الناس • من شر

الوسواس الخناس • الذى يوسوس فى صدور الناس • من الجنة والناس •

یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو یہ سورت ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، پڑھ لے تو اچھا ہے، ورنہ اپنی زبان میں مانگ لو کہ یا اللہ! یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، اپنے رحمت سے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، بس انشاء اللہ تعالیٰ بالکل محفوظ ہو جاؤ گے، اس کی پرواہ بھی مت کرو، اور یہی معنی ہیں ”اَلْحَنَسَّاس“ کے، جب اللہ کا ذکر کر لے گا بندہ تو شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، اللہ کے ذکر میں یہ پناہ مانگ لینا بھی داخل ہے، جب پناہ مانگ لو گے تو انشاء اللہ شیطان دور ہو جائے گا، یہ وسوسے جو ایمان وغیرہ سے متعلق آتے ہیں، عقائد کے متعلق آتے ہیں، ان کا تو حل خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا، اور اس سورت کے اندر بھی بیان کر دیا گیا۔

### وسوسہ کی ایک قسم ”اہم“

ایک اور وسوسہ ہے جو وہم کی بیماری ہو جاتی ہے، مثلاً وسوسے آرہے ہیں کہ میں ناپاک ہو گیا، پاکی ناپاکی کے مسئلے میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، شریعت نے تین مرتبہ وضو کے اندر ہاتھ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، ہاتھوں کو، منہ کو، پاؤں کو تین تین مرتبہ دھولیں اتنا حکم ہے، اب بعض اوقات شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں تیرا تو وضو ہی نہیں ہوا، تین مرتبہ دھونا تیرے لئے کافی نہیں ہے، تیرا پاؤں خشک رہ گیا، تیری کہنی خشک رہ گئی، تیرا ہاتھ خشک رہ گیا، اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، اور درحقیقت اس قسم کے وسوسے ڈالنے سے اس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں تو پاک ہوا ہی نہیں، اب وہ بار بار وضو کرائے گا، یہاں تک کہ ایک نماز میں ایک گھنٹہ لگ جائے گا، جب ایک نماز میں ایک گھنٹہ

لگے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا، کہ وہ یہ سوچے گا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا میرے لئے نماز پڑھنا، اس طرح وہ نماز چھڑوادے گا، تو یہ وسوسہ بھی شیطان ڈالتا ہے، اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہم کی بیماری یہ بھی شیطانی تصرف ہے۔

### اس وہم کا علاج

اس کا علاج بزرگوں نے یہ فرمایا، کہ جس چیز کا وہم پیدا ہو رہا ہے، آدمی اس کی زبردستی خلاف ورزی کرے، مثلاً تین مرتبہ ہاتھ اچھی طرح دھولے مناسب طریقے پر جیسے دھوئے جاتے ہیں، پھر بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا ہاتھ خشک رہ گیا لاؤ، دوبارہ دھولوں تو اب اس کی مخالفت کرو، اور کہو نہیں نہیں، اب دوبارہ نہیں دھوں گا، زبردستی اس کی مخالفت کرے تو اس صورت میں رفتہ رفتہ وہ شیطان مایوس ہو جائے گا، یہ تو میرا کہنا مانتا نہیں ہے لہذا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور وہ بھاگ جائے گا، اس کا یہی علاج ہے۔

### حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ

ہمارے بزرگوں میں سے شاید حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وضو کر رہا تھا، جب وضو کر کے فارغ ہو کر چلا تو ذہن میں خیال آیا کہ کہنی خشک رہ گئی ہے، میں نے سوچا کہ یہ شبہ دل میں پیدا ہوا ہے، تو اس کو دور کرنا چاہیے، چنانچہ دوبارہ واپس گیا اور جا کر کہنی کے اوپر پانی ڈال کر خشکی کا جو خیال تھا وہ دور کر لیا، پھر چلا، تھوڑی دور گیا تو خیال آیا کہ شاید بائیں کہنی خشک رہ گئی ہے، یہ دل میں خیال آیا تو میں نے کہا کہ یہ شبہ کیوں چھوڑیں،



دوبارہ گئے اور جا کر دوسری کہنی بھی دھولی، پھر ذرا آگے چلے تو پھر خیال آیا کہ ٹخنہ خشک رہ گیا ہے، جب تیسری مرتبہ یہ خیال آیا تو میں نے دل میں کہا کہ اچھا یہ حضرت آپ ہیں، یہ کہہ کر میں نے کہا کہ آج ہم بغیر وضو ہی کے نماز پڑھیں گے، تم کہتے رہو کہ وضو نہیں ہوا، آج ہم بغیر وضو ہی کے نماز پڑھیں گے، اور پھر یہ فرمایا کہ اگر میں اس وقت یہ نہ کہتا تو یہ زندگی بھر کا وظیفہ ہو گیا تھا، وہ زندگی بھر اسی شک میں، اسی وسوسے میں اور اسی وہم میں مبتلا رکھتا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس قسم کے وسوسے ڈالتا، لہذا الحمد للہ اس کا علاج ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ وسوسہ نہیں آیا، بہر حال! علاج اس کا یہی ہے کہ زبردستی اس وہم کی مخالفت کی جائے۔

### نماز میں وہم کا واقعہ

بعض مرتبہ نماز کے اندر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ اتنی کثرت سے وسوسے ڈالتا ہے کہ اس میں لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ایک ایسے ہی صاحب تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو یہ وہم ہو جاتا تھا کہ نماز میں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ وہم ہوتا تھا اور آکر انہوں نے یہ کیفیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تم کوئی بدبو محسوس نہ کرو، یا آواز نہ سن لو، حالانکہ وضو ٹوٹنے کے لئے ضروری نہیں کہ آدمی بدبو محسوس کرے، یا آواز سنے، مثلاً ریح خارج ہوگئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن

اس سے یہ فرمایا کہ تمہارا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تمہیں بدبو نہ آجائے، یا آواز نہ آجائے، اس وقت تک تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔

## بعض لوگوں کی غلطی

بعض لوگ اس حدیث کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھی حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدبو جب تک نہ آئے، یا آواز جب تک نہ ہو، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا، مجھے خود ایک صاحب ملے جو کہتے تھے کہ بھی ہم مولوی ملاؤں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم تو قرآن و سنت کو براہ راست دیکھتے ہیں، براہ راست قرآن شریف کے اور حدیث کی کتابوں کے ترجمے پڑھیں گے اور جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کریں گے، یہ ان کا ذہن تھا جیسا کہ آج کل بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ یہ حدیث پڑھ لی انہوں نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک بو نہ ہو، آواز نہ ہو، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا تو وہ فرمانے لگے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، لہذا ہمارے لئے تو حضور کا قول حجت ہے، امام ابوحنیفہ کچھ کہہ رہے ہیں، امام شافعی کچھ کہہ رہے ہیں، اور ائمہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن حضور کا قول حجت ہے، لہذا وہ ساری عمر خود عمل اس پر کرتے رہے کہ جب تک بو نہ آئی اور آواز نہ آئی، سمجھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے یقین ہو گیا ہو وضو ٹوٹنے کا۔

خود رانی سے گمراہی پیدا ہوتی ہے

تو یہ گمراہیاں درحقیقت خود رانی سے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ

بھی مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو براہ راست قرآن و حدیث پڑھوں گا، ترجیح چھپے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب نکال لوں گا، حقیقت اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک ایسے وہمی شخص سے فرمائی تھی جس کو بار بار وہم ہوتا تھا وضو ٹوٹنے کا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسے وہم اور وسوسے کا علاج یہی ہے کہ آدمی اس وسوسے اور وہم کے خلاف زبردستی عمل کرے، اس کے بغیر اس بیماری سے نجات نہیں مل سکتی، تو ایک تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہم کے خلاف زبردستی عمل کرے۔

### وہم کا دوسرا علاج

اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت سورۃ الناس کو کثرت سے پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ! مجھے یہ وسوسے کی اور وہم کی بیماری ہو رہی ہے، آپ اپنی رحمت سے میرے اس وہم کو دور فرما دیجئے تو انشاء اللہ پھر اس کو نقصان نہیں ہوگا۔

### وہم سے زندگی اجیرن

اللہ بچائے یہ وہم کی بیماری ہو جائے تو آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کسی کو اپنی بیوی کے بارے میں وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ وفادار ہے کہ نہیں، اور اس کی وجہ سے بڑی مصیبت میں خود بھی رہتا ہے اور بیوی کو بھی رکھتا ہے، کسی کو وہم پیدا ہو گیا کہ میرے منہ سے تو طلاق نکل جاتی ہے ہر وقت بیوی کے لئے، اب ہر وقت یہ محسوس کرتا ہوں جیسے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، اور بیوی میرے اوپر حرام ہو گئی، یہ ساری وہم کی بیماریاں وسوسے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے کہ

آدمی اس وہم کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، اور بھروسہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کر لے تو یہ بیماری رفتہ رفتہ دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مؤمن کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور بھائی یہ سورت پڑھتے رہنے سے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے سے امید ہے انشاء اللہ اس سے بھی نجات ملے گی۔

### خلاصہ

وسوسے کی دو قسمیں میں نے عرض کیں، ایک جو ایمان و عقائد سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے شیطان، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس کی پرواہ ہی نہ کرے، ایسے موقع پر میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، ادعیہ مائورہ جو مختلف کتابوں میں مثلاً مناجات مقبول میں لکھی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے سے بھی اس قسم کے وسوسوں کا سدباب ہوتا ہے، ایسے حالات میں آدمی یہ دعائیں کثرت سے پڑھے تو اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھتے ہیں، اور دوسری قسم وسوسے کی جو وہم کی شکل میں آتی ہے، اور آدمی کو پریشان کرتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگے، اور اس وسوسے کے خلاف عمل کرے، اور تیسری قسم وہ ہے اللہ بچائے جس میں تقریباً سب ہی انسان مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہے گناہ کا وسوسہ، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کی تفصیل اگر زندگی رہی تو انشاء اللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ کے جمعہ کے بیانات اور تفسیری بیانات پر مشتمل مجموعہ بنام:

## خطبات عثمانی (۳ جلدیں)

منظر عام پر آچکا ہے، ”اصلاحی خطبات“ کی مقبولیت کے بعد اب دوسرے مجموعے کا آغاز کیا گیا ہے۔  
 جو فی الحال تین جلدوں پر مشتمل ہے۔  
 اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہیگا۔ انشاء اللہ۔

عام ایڈیشن: =/800 روپے

اپنے قریبی اسلامی کتب خانہ سے طلب فرمائیں۔

رعایتی قیمت انتہائی مناسب

الرحمن  
مکتبہ

مکتبہ اسلامیہ

محمد مشہود الحق کلیانوی

0313-920 54 97

0322-241 88 20

E-mail : memonlp@hotmail.com

# جادو اور آسیب کا علاج

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم

ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ  
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## جادو اور آسب کا علاج

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُوْلَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اما بعد : فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ • مَلِكِ النَّاسِ • اِلٰهِ النَّاسِ • مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ • الَّذِي يُّوسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ • مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ • اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ. وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ. وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهَدِيْنَ وَ الشّٰكِرِيْنَ.

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! کوئی ایسی صورت پیش آئے جو بظاہر تکلیف



وہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو وسوسہ ڈالنے والے کی ذات سے، میں نے عرض کیا تھا کہ وسوسوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور ان وسوسوں کا کیا علاج ہے وہ میں پچھلے جمعہ عرض کر چکا ہوں۔

### وسوسہ ڈالنے والے شیطان اور انسان

آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ وسوسے ڈالنے والے ہمیشہ شیطان ہی نہیں ہوتے، جنات ہی نہیں ہوتے بلکہ انسان بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں، وہ بعض اوقات جنات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان بھی ہوتے ہیں، جنات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ابلیس تو ایک ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن اس کے چیلے چانٹے، اس کے شاگرد بہت سے ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ جنات میں سے ہیں، شیطان انہیں دنیا بھر میں بھیجتا رہتا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔

### شیطانوں کا اجتماع اور کارکردگی

حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کبھی کبھی ایسا کرتا ہے، شیطان سے مراد ابلیس، جو ان سب کا سرغنہ ہے، وہ کبھی کبھی سمندر کے اوپر، اپنے سارے لوگوں کا اجتماع کرتا ہے، اور اپنے چیلے چانٹوں سے رپورٹ لیتا ہے، کہ بتاؤ تم میں سے کس نے کیا کام کیا، کس نے کیا کام کیا، کس نے کیا کارنامہ انجام دیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں ایک بڑا سا

تحت بچھا کر بیٹھتا ہے، اور جتنے اس کے چیلے چائے ہوتے ہیں، اس کے لشکر کے افراد ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں، ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا بتاؤ، تو ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کے دل میں ایسا خیال پیدا کیا کہ اس نے نماز چھوڑ دی اور نماز کو نہیں جاسکا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا کام کیا تم نے، لیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی، دوسرا کھڑا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے دل میں زکوٰۃ اور صدقات دینے کا خیال آیا تھا تو میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو اگر پیسے خرچ کرے گا تو تیرے پاس کمی پڑ جائے گی، لہذا وہ اس سے رک گیا، اس نے کہا کہ تو نے بھی ٹھیک کیا، لیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی، کوئی بڑا کارنامہ نہ ہوا، تیسرا کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ فلاں شخص روزہ رکھنا چاہ رہا تھا میں نے اس کے دل میں بات ڈالی وہ روزے سے رک گیا، بہر حال مختلف لوگ اپنی اپنی کارگزاریاں بیان کریں گے کہ ہم نے فلاں کو نماز سے روک دیا، فلاں کو ذکر سے روک دیا، فلاں کو تلاوت قرآن سے روک دیا، فلاں کو روزے سے روک دیا، فلاں کو عبادت سے روک دیا، وہ کہے گا ٹھیک ہے لیکن تم نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں دکھایا۔

میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروادی

ایک بڑا شیطان کھڑا ہوگا، اور کہے گا کہ جی میں نے یہ کام کیا کہ دو میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور دونوں میں بڑا اتحاد تھا، بڑا اتفاق تھا، بڑی محبت تھی، اور ان کی زندگی بڑی خوش گوار گزار رہی تھی، میں نے ایک ایسا حربہ استعمال کیا کہ دونوں کے درمیان چپقلش ہوگئی، اور چپقلش کے نتیجے میں دونوں کے

درمیان لگائی بھائی کرتا رہا، شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا رہا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا رہا، نوبت یہاں تک آئی کہ وہ محبت کرنے والے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور طلاق ہو گئی، اور دونوں کا خاندان اجڑ گیا، تو ابلیس کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ہاں تو ہے جس نے صحیح کارنامہ انجام دیا، اس کو گلے سے لگائے گا، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان میں سب سے خطرناک شیطان وہ ہے، جو دو محبت کرنے والے مسلمانوں کے دو میانِ عداوت کا بیج ڈال دے، ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنا دے۔

### شیطان کے چیلے بہت ہیں

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان ابلیس ایک اکیلا نہیں وہ تو ایک ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے تابعین اور پیروکار اور اس کے شاگرد اور چیلے بہت سارے ہیں، جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو قرآن کریم میں ہے کہ شیطان ابلیس یہ کہہ رہا تھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا تو قرآن نے بھی کہا تھا جو تیرا دل چاہے کر لے، تو اپنے سارے لشکر کو لے آ، اور میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کر لے، جو بندے مجھ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، یہ قرآن کریم میں ہے، یہاں پر سورۃ الناس میں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس سے مراد شیطان کے چیلے چائٹے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کریم نے خود فرما دیا کہ

گھبرانے کی بات نہیں کیونکہ ہیں تو یہ شیطان کے چیلے چاٹنے۔

شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے

حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے، جس طرح رگوں میں خون سرایت کر جاتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعتکاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کیلئے آئیں، کچھ دیر رہیں پھر واپس جانے لگیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کیلئے مسجد کے دروازے تک آئے، جب وہاں پہنچے تو رات کا اندھیرا تھا، حضور کے ساتھ ایک خاتون تھیں اور وہ ظاہر ہے پردے میں ہوں گی، وہ پردے میں تھیں تو اس واسطے دو صحابی قریب سے گزرے تو آپ نے ان صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو! یہ میرے ساتھ جو خاتون ہیں، یہ میری اہلیہ صفیہ ہیں، تو وہ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ! آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ یہ صفیہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لئے کہا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح رگوں میں خون سرایت کرتا ہے، تو مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں خیال آجائے کہ حضور کے ساتھ رات کے وقت یہ خاتون کون تھیں؟ تو اس واسطے تمہیں وسوسہ آجاتا اور تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا، اس لئے میں نے اس وسوسے کو دور کرنے کیلئے تمہیں یہ بتا دیا کہ میری بیوی ہیں، کوئی اور عورت نہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچانا چاہیے، اور

اگر کہیں تہمت کے لگنے کا اندیشہ ہو تو اس کی صفائی کر دینی چاہیے، تو حضور نے واضح کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔

## شیطان کے حربے کمزور ہیں

لیکن ساتھ میں قرآن کریم نے یہ بھی فرمادیا کہ باوجود اس کے شیطان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ انسان کے جسم کی رگوں میں خون کی طرح سرایت کرے، لیکن:

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء: ۷۶)

قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے جتنے حربے ہیں وہ سب بہت کمزور ہیں، اور آپ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ (الحجر: ۴۱)

ابلیس سے کہہ دیا تھا کہ جو صحیح معنی میں میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو تسلی دینے کیلئے فرمادیا کہ یہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لئے پیدا تو کیا ہے لیکن اس کو بہت کمزور بنایا ہے، ذرا سا آدمی ڈٹ جائے اس کے مقابلے پر تو وہ فوراً نرم پڑ جاتا ہے، فوراً کافور ہو جاتا ہے، اور ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لے تو شیطان کا مکر ذائل ہو جاتا ہے، لہذا بہت ڈرنے کی بات نہیں کہ آدمی سوچے کہ میں تو بری طرح پھنس گیا، میرے اوپر تو شیطان اس طرح مسلط ہے کہ میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، لہذا اب اس سے بچنا تو ممکن نہیں! ایسا نہیں، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کا مکر بہت

کمزور ہے، ہاں طاقت اس کو اس شخص پر حاصل ہوتی ہے جو اس شیطان کے مکر سے بچنا ہی نہیں چاہتا ہو، وہ خود شیطان کے آگے آگے ہو گیا اور اس سے بچنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا تو پھر بے شک اس کے اوپر وہ قابو پالیتا ہے، دیکھو مخلوق میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہوتی ہیں، جو ویسے تو بڑا شور شرابا دکھاتی ہیں، بڑی فوں فوں کرتی ہیں، بڑا جوش و خروش دکھاتی ہیں، لیکن ذرا آدمی کوئی ڈٹ جائے تو فوراً بیٹھ جاتی ہیں، یہ عام طور پر جو رزائل قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، تو شیطان بھی اسی میں سے ہے، اگر آپ اس سے ڈر گئے اور آپ نے اس شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ کہا کہ بھئی جیسا تو کہے گا میں ویسا ہی کرونگا تو وہ حاوی ہو جائے گا، اور ساری زندگی خراب کرے گا، لیکن اگر کوئی آدمی اس کے سامنے ڈٹ جائے کہ میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آجائے، اور سورۃ الناس پڑھ کر اللہ کی پناہ لے لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بچالیتے ہیں۔

## نفس بھی وسوسے ڈالنے والا ہے

اسی طریقے سے فرمایا کہ کچھ وسوسے ڈالنے والے انسانوں میں سے ہیں، من المحنة والناس، اب انسانوں میں وسوسے ڈالنے والا سب سے پہلے تو ہمارا نفس ہے، نفسانی خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں اور ان نفسانی خواہشات کے نتیجے میں آدمی بہک جاتا ہے، دل چاہ رہا ہے فلاں گناہ کر لو، دل چاہ رہا ہے فلاں گناہ کر لو تو اس دل کے چاہنے کے پیچھے جب چل پڑتا ہے آدمی کہ دل کی ہر خواہش کو پورا

کروں گا، جو دل میں آئے گا کروں گا، جو جی چاہ رہا ہے کروں گا، تو پھر نفس اس کے اوپر قابو پالیتا ہے، اور قابو پانے کے ساتھ پھر وہ آدمی اللہ بچائے غلط راستے پر پڑ جاتا ہے۔

## نفس کے بہکانے کا علاج

لیکن اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب کبھی تمہارے دل کی خواہش تمہیں گناہ کی طرف لے جا رہی ہو تو اس وقت ایک دم سے اس دل کی خواہش کے پیچھے نہ چل پڑو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ! میرا نفس مجھے بہکا رہا ہے، مجھے غلط راستے پر ڈال رہا ہے آپ مجھے اس سے بچالیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر اپنے آپ کو سنبھالو، ذرا سوچو کہ یہ کام جس کی طرف میرا نفس مجھے لے جا رہا ہے یہ آیا کرنے کا بھی ہے یا نہیں، اس کا انجام دنیا و آخرت میں کیا ہوگا، قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذَا مَسَّهُمْ طَٰغِیْفٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (اعراف: ۲۰۱)

وہ لوگ غور کرتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے تو غور کے نتیجے میں اچانک ان کو صحیح راستہ نظر آ جاتا ہے، جس وقت گناہ کا خیال آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وسوسہ ہے جو نفس دل میں ڈال رہا ہے، اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔

## حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح بچے

دیکھو! نفس و شیطان نے ذلیخا کو بہکایا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام

پر ڈورے ڈالے، اور اس نے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیئے، اور تالے ڈال دیئے کہ کہیں بھاگ نہ سکیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، قرآن کریم فرماتا ہے: **وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ . وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ .** بہر حال! حضرت یوسف علیہ السلام انسان تھے اور بشر تھے، نبی ہونے کے علاوہ بشر تھے، اور ساتھ ساتھ سارے بشری تقاضے اور بشری خواہشات ان کے دل میں بھی موجود تھیں، اور اور بھر پور جوانی ہے اور غیر شادی شدہ ہیں، اور اس حالت میں ایک عورت اس طرح دروازے بند کر کے دعوت گناہ دے رہی ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ کچھ کچھ خیال ان کے دل میں بھی آچلا تھا، لیکن خیال آنے کے باوجود فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ یا اللہ! اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اور یہ خواہش بھی دل میں پیدا ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے کرنے کا جو کام تھا کہ جتنا بھاگ سکیں بھاگ جائیں، باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی پناہ مانگ کر دروازے تک بھاگے، اور اپنے کرنے کا کام اتنا ہی تھا کہ دروازے تک بھاگ جائیں، لیکن بچانا آپ کا کام ہے، اور آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے بچا لیجئے، دوڑے تو تالے ٹوٹے گئے، اور ذلیخا کا شوہر وہیں دروازے کے باہر مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، دعا کیا مانگی:

وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (یوسف: ۲۳)

یا اللہ! اگر آپ نے ان عورتوں کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، میرے دل میں بھی میلان پیدا ہو جائے گا، اور جاہلوں کی



فہرست میں، میں بھی شامل ہو جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں بچالیا، تو یہ ہے طریقہ جو قرآن کریم نے تلقین فرمایا ہے، کہ جب کبھی نفس بھکائے یا کوئی انسان بھکائے، بظاہر تو وہ انسان ہے لیکن گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو وہ کام شیطان کا کر رہا ہے کہ دل میں وسوسے ڈال رہا ہے گناہ کرنے کے، اس وقت میں بھی اللہ کی پناہ مانگو، اے اللہ! اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کام سے بچالیجئے۔

## دو کام کرنے چاہئیں

دو کام کرنے ہیں ایک اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دوسرا جتنی کوشش انسان کے بس میں ہے اس گناہ سے بچنے کی وہ کر لے، کوشش تو کرنی پڑے گی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، کوئی آدمی کوشش تو الٹی کرے، گناہ کی طرف چلے اور کہے کہ یا اللہ مجھے بچالیجئے، یہ تو مزاق ہے، یہ دعا نہیں، یعنی اپنی سی کوشش کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچالیتے ہیں، اس سورت کریمہ کا یہ خلاصہ ہے۔

## سوتے وقت پڑھ کر دم کریں

اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے یہ دو سورتیں پڑھتے تھے: قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے، تین مرتبہ ایسا کرتے تھے، یہ حفاظت کے لئے ہے شیطان سے، اور نقصان پہنچانے والی تمام مخلوقات سے، جادو سے، سحر سے، شیطانوں کے تصرفات سے، انسانوں کے

تصرفات سے، حفاظت کے لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سونے سے پہلے دونوں ہاتھوں پر یہ سورتیں پڑھ کر دم کرتے، اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، یہ عمل تین مرتبہ کرتے تھے۔

## مرض الوفات میں بھی دم کرتے

یہاں تک کہ جب مرض وفات ہوا، جس مرض میں وفات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس وقت آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ بیماری کی وجہ سے خود یہ عمل کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ چونکہ میں نے ساری زندگی آپ کو یہ عمل کرتے دیکھا تھا، تو میں چاہتی تھی کہ یہ بیماری ہے اس میں بھی یہ عمل جاری رہے، میں چاہتی تھی کہ: قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پڑھ کر آپ کے سارے جسم پر دم کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کروں گی تو اس سے وہ برکت نہیں ہوگی تو میں نے یہ دونوں سورتیں پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اٹھایا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر دست مبارک پر ہی دم کیا اور آپ ہی کے دست مبارک لے کر آپ کے جسم مبارک پر پھیر لیے، تو یہ ایسا عمل ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رکھتا ہے، لوگ آج کل بڑے جادو ٹونے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور عملیات تعویذ گنڈے اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے، جو آدمی یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، اور جادو گروں کے شر سے

بھی محفوظ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

## آجکل بد امنی کا دور دورہ ہے

آخر میں یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر شخص پریشان بھی ہے اور بے چین بھی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ دشمنوں کے نرغے کی وجہ سے ملک کی بقا خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور روز بد امنی کا کوئی نہ کوئی واقعہ کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجدیں بھی اس بد امنی اور دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ خیبر میں مسجد میں عین جمعہ کے وقت ایسی کاروائی ہوئی جس میں ستر سے زیادہ افراد شہید ہوئے، اور اس طرح کی کاروائیاں مختلف جگہوں پر ہوتی رہیں ہیں، لاہور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا اور اسلام آباد میں بھی، اور ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ کوئی مسلمان یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ مسجد کے اوپر حملہ آور ہو، نمازیوں کے اوپر حملہ آور ہو، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر حملے کرے، یہ بیرونی سازشوں کا سلسلہ ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری بد اعمالیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اس بد امنی کی صورتحال سے محفوظ رکھے، دوسرا یہ ہے کہ حتی الامکان اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے کہ اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ کوئی نقصان، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ انسان کو اپنی

حفاظت کے لئے جتنے مناسب ذرائع کر سکتا ہو وہ کرنا بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعض اوقات دشمن کی طرف سے حملہ کا اندیشہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام آپ کے گرد پہرا دیا کرتے تھے آپ کی حفاظت کے لئے، اور جب مدینہ منورہ پر حملے کا اندیشہ تھا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کا پہرا دیا کرتے تھے، اور اس پہرے کی بھی عظیم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لہذا جو مناسب حد تک جو تدبیر انسان اختیار کر سکتا ہو وہ اختیار کرنی چاہئے، اس لئے چونکہ مسجدوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں کچھ مشتبہ قسم کے واقعات پیش آچکے ہیں۔

### مسجد میں آنے والوں کی چیکنگ کی جائے گی

اس لئے یہاں اس مسجد میں انتظام کیا گیا ہے کہ یہاں داخلے کے وقت جو بھی حضرات تشریف لاتے ہیں مسجد میں ان کی اسکینگ کے ذریعے چیکنگ کی جائے گی، اس میں سب ہی کا فائدہ ہے، سب ہی کی حفاظت کا ایک انتظام ہے اگرچہ سچی بات یہ ہے کہ مسجدوں میں اس قسم کے انتظامات اچھے نہیں لگتے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں جو بھی آئے جس وقت بھی آئے اس کو منع نہیں کیا جاسکتا، لیکن ان حالات کے تناظر میں جن سے ہم گزر رہے ہیں اس کی وجہ مسجد کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو حضرات یہاں آئیں گے ان کی اسکینگ کی جائے گی، اور اسکینگ کر کے پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی تاکہ جتنا انتظام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے بس میں ہے حفاظت کا، یہ سارے نمازی جو آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینے کے لئے آتے ہیں، اور یہ مسجد

کی انتظامیہ کی امانت ہے ہمارے پاس یہ سارے نمازی اس کے لحاظ سے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے، امید ہے آپ حضرات اس سے تعاون کریں گے، اور اسی کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے اس تعاون پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

# جھاڑ پھونک اور تعویذ گندے

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم

ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ \* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ \* قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* اِلٰهِ النَّاسِ \* مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ \* مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ \* اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ. وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ. وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهَدِيْنَ وَ الشّٰكِرِيْنَ.

تمہید

بزرگان محترم اور برادران عزیز! یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے جس کی



کچھ تشریح کا بیان پچھلے چند جمعوں سے چل رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، یہ قرآن کریم کی آخری دو سورتیں ”قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس“ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان دو سورتوں کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگئے، پہلی سورۃ ”سورۃ الفلق“ تھی، جس کا بیان بقدر ضرورت ہو چکا ہے، دوسری سورۃ یہ ”قل اعوذ برب الناس“ ہے جس کو ”سورۃ الناس“ کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ فرما رہے ہیں ”قل“ آپ کہیے، کیا کہیے؟ ”اعوذ برب الناس“ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار کی ”ملك الناس“ تمام انسانوں کے بادشاہ کی ”الہ الناس“ تمام انسانوں کے معبود کی، اس سے مراد تو حق تعالیٰ ہیں لیکن یہاں تین صفتیں ذکر فرمائیں کہ جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا معبود ہے اس کی ”من شر الوسواس الخناس“ اس کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے ”من الحنة والناس“ چاہے وہ جنات میں سے ہو، یا انسانوں میں سے ہو، یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔

میری پناہ مانگو

پچھلے دو جمعوں میں اس کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ تھا

کہ جب کبھی کوئی وسوسہ، کوئی برا خیال، گناہ کا ارادہ، گناہ کی خواہش، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی - العیاذ باللہ - کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یا اللہ! میں اس وسوسے کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس میں ہر قسم کا وسوسہ داخل ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ میری پناہ مانگو تو یقیناً جو اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کسی سے کہے کہ تم میری پناہ مانگو اور جب وہ پناہ مانگے تو کہے کہ بھاگ جاؤ، میں تمہیں پناہ نہیں دیتا، ایک معمولی شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو رحمن رحیم ہے اس سے یہ ممکن نہیں ہے۔

## قرآن کریم کی دعا رد نہیں ہو سکتی

اسی لئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم نے جو دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، ان دعاؤں کا رد ہونے کا امکان ہی نہیں، کیونکہ جب خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ۔ یہ کہو اے میرے پروردگار مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو یعنی درخواست کا مضمون بتا رہے ہیں، جب کسی کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے، اس میں ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ میں پیش کرے، دوسری شکل یہ ہے کہ جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ سے

مجھے درخواست دو تو وہ کیسے رد ہوگی؟ اس واسطے جب اللہ کی پناہ مانگے گا انسان اس قسم کے تمام وساوس کے شر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پناہ عطا فرمائیں گے، بشرطیکہ سچے دل سے مانگے۔

## حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لی

دیکھئے! حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ذولینا نے ان پر ڈورے ڈالے اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دیئے، اور گناہ کی دعوت دی، جس کو دعوت دی جا رہی تھی وہ بھی انسان تھا، بشر تھا، اس کے دل میں بھی بشری تقاضے اور بشری خواہشات موجود تھیں، وہ فرشتہ نہیں تھا، چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے: **وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا**. یعنی عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کرنے کا، ان کے دل میں بھی کچھ کچھ خیال آچلا تھا اگر اللہ کی دلیل نہیں دیکھ لی ہوتی، وہ بشر تھے اگر خیال نہ آتا اور خواہش نہ پیدا ہوتی اور بچ جاتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی، لیکن بھر پور جوانی ہے، بشری تقاضے پوری طرح موجود ہیں، قوت اور طاقت موجود ہے، اور دل میں خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد بچے، یہ ہے کمال جو بیخبروں کا کمال ہے، قرآن کریم کہتا ہے دو کام کیے، ایک کام یہ کیا جو دل میں خیال آچلا تھا اللہ سے اس کی پناہ مانگی، اے اللہ! میرے دل میں یہ خیال آنے لگا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اگر آپ نے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکوں گا، تو پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤں، اپنے بس میں جتنی بچنے کی کوشش تھی وہ پوری کر لی،

اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ! میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں، معلوم بھی ہے کہ دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں میں بھاگ کر باہر نہیں نکل سکتا، لیکن میرے بس میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک پہنچ جاؤں تو کسی طرح بھاگ کر دروازے تک پہنچ گئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بندہ نے اپنا کام پورا کر لیا، جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا اور پھر میری پناہ مانگ لی تو اب میرا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کے تالے توڑ دیئے، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید

خیرہ یوسف وار می باید دوید

اگر تمہیں گناہوں سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، اور پھر اللہ سے مانگو کہ یا اللہ! میرا کام اتنا تھا آگے تیرا کام ہے۔

## جنگ آزادی کا ایک واقعہ

میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ سن ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تو جگہ جگہ پھانسیاں لگائی ہوئی تھیں، لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں، اور ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا، آج ہمیں یہ تشدد پسند کہتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ ظلم و بربریت سے بھری ہوئی ہے، بربریت کا بازار گرم تھا، اسی میں ایک اللہ والے ایک گھر میں ان لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر ٹھہرے ہوئے تھے، کئی دن اسی حالت میں گزر گئے نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو

کچھ تھا، باہر نکل نہیں سکتے تھے، باہر نکلتے تو انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے، جب کئی دن گزر گئے اور بالکل جان لبوں تک آگئی تو سوچا کہ کیا کروں پانی ہے نہیں، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، تو دل میں یہ سوچا جتنا میرے بس میں کام ہے وہ تو کر لوں اور پھر اللہ سے مانگوں، تو ایک پیالہ پڑا ہوا تھا پاس اور بھوک پیاس کی کمزوری سے چلنا ممکن نہیں تھا، پیالے کو ہاتھ میں لیکر سرک سرک کر سرک کر صحن تک پہنچ گئے اور صحن میں لے جا کر پیالہ رکھ دیا، اور دعا کی کہ یا اللہ! میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں سرک کر پیالہ یہاں رکھ دوں، اب بارش نازل کرنا یہ آپ کا کام ہے، اپنے فضل سے آسمان سے مجھے اس میں پانی عطا فرما دیجئے، یہ دعا کی، جب بندہ نے اپنا کام پورا کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اب میرا کام ہے، بادل آئے، بارش برسی اور پیالہ پانی سے بھر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے کرنے کا کام ہے وہ کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، جتنی گناہ سے بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے وہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد کر دیں۔

اس سورۃ میں یہی سکھایا گیا ہے

تو یہ سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں کہ اپنا کام کرو اور پھر میری پناہ مانگو، اور شیطان سے پناہ مانگو، نفس کے شر سے پناہ مانگو، کوئی برا سا تھی مل گیا ہے وہ غلط راستے پر چلا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ دلوں میں غلط باتیں ڈال رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے میری پناہ مانگو، حدیث

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ! میں آپکی پناہ مانگتا ہوں ”من صاحب السوء“ برے ساتھی سے، جس کی صحبت مجھے خراب کر دے میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگنے کی عادت ڈالو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہر برے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔

### نماز حاجت پڑھ کر

یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ پناہ مانگنے کا اور اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے، کہ آدمی براہ راست اللہ سے مانگے، نماز حاجت پڑھے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بھی حاجت پیش آئے، کوئی بھی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آجائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اسے پیش کرنا ہو تو دو رکعتیں نماز حاجت کی نیت سے پڑھو اور نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس کے کچھ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں، وہ یاد کر لئے جائیں تو اچھا ہے، یہ دعا مناجات مقبول میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ یاد کر لو تو اچھا ہے، لیکن بالفرض یاد نہ بھی ہو تو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ“ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ حاجت پیش کرو، یا اللہ مجھے یہ حاجت پیش آرہی ہے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا فرما دیجئے، یہ نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے کا طریقہ تمام حاجات، تمام مشکلات کو حل کرنے کے لئے سب سے زیادہ افضل، موجب ثواب اور سب سے زیادہ مؤثر ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے یہ تلقین فرمائی۔

## ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے

میں یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے، یا جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، کہ کوئی تعویذ بتادو، یا دیدو تو تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے، تعویذ گنڈے سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھ کیا گیا ہے، اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا چاہیے، فلاں چیز کا تعویذ دیدو، فلاں چیز کا تعویذ دیدو، یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آ کے سر ہو گئی کہ جی میری مانگ صحیح نہیں نکلتی، جب میں بال بناتی ہوں تو ٹیڑھی نکلتی ہے، کنگلی کرتی ہو تو مانگ سیدھی نہیں نکلتی، تو کوئی ایسا تعویذ ایسا دیدو کہ مانگ سیدھی نکلا کرے، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی تعویذ ہے ہی نہیں، اس نے کہا نہیں، اس کا کوئی تعویذ دیدو، آپ عالم آدمی ہو، اور کوئی تعویذ دیدو، جوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ سارا علم دین پڑھتا ہے وہ سارا علم تعویذ گنڈے کے لئے پڑھتا ہے، جس کو تعویذ گنڈے نہیں آتے تو وہ عالم ہی نہیں ہے، تو آج کل لوگوں کے ذہن میں علم منحصر ہو گیا

ہے، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں کہ اگر یہ عالم ہے تو کوئی نہ کوئی تعویذ نکالے گا اور ایسا دے گا کہ جس سے میرا مقصد حاصل ہو جائے۔

## حضور نے کبھی تعویذ نہیں دیا

خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ نہیں دیا، ہاں کبھی کبھی جھاڑ پھونک کی ہے کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ ”قل“ کہو، زبان سے کہو، تو بعض اوقات بیماروں کے اوپر جھاڑ پھونک کی ہے: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اشْفِ اَنْتَ الشّٰفِیُّ لَا شِیْءَ اِلَّا شِیْءُكَ شِیْءًا لَا یُعَادِرُ سَقَمًا۔ پڑھ کر دم کر دیا اور فرمایا: اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنْ یَّشْفِیْكَ۔ یہ کہہ کر دم کر دیا، اور اس طرح کے کچھ ذکر ہیں ان کو پڑھ کر دم کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان دعاؤں کا ترجمہ یہ ہے کہ: اللہ جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے یہ بیماری دور فرما: اَنْتَ الشّٰفِیُّ۔ آپ ہی شفا دینے والے ہیں: لَا شِیْءَ اِلَّا شِیْءُكَ۔ آپ کے سوا کوئی شفاء نہیں دے سکتا: شِیْءًا لَا یُعَادِرُ سَقَمًا۔ ایسی شفاء دیدیجئے جس کے بعد کو بیماری باقی نہ رہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے: اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنْ یَّشْفِیْكَ۔ میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سارے عرش کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفاء دیدے، یہ حضور سے ثابت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لئے جھاڑ تو کی ہے، دم تو کیا ہے، لیکن تعویذ لکھ کر کسی کو نہیں دیا، نہ کسی صحابی سے کہا کہ تم اس کو لکھ کر دیدو۔

## صحابہ کرام کا تعویذ لکھنا

البتہ جو لوگ زبان سے خود نہیں پڑ سکتے ان کے لیے بعض صحابہ کرام نے یہ کیا



کہ ان کو تو زبان سے یاد نہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے، لاؤ اس کو لکھ کر دے دیں تو یہ باندھ لے، اپنے بازو پر باندھ لے، یا گلے میں ڈال لے، یہ بعض صحابہ سے منقول ہے لہذا وہ ناجائز نہیں ہے، کوئی قرآنی آیات کا تعویذ گلے میں ڈال لے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویذ جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہوں یا اس میں کوئی دعا ہو، ذکر ہو، اس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں۔

### ایسے تعویذ حرام ہیں

ایسے تعویذ جس میں ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، ایسا تعویذ حرام ہے، اگر اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے، ایسی بات لکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا تو ایسا تعویذ استعمال کرنا ناجائز ہے، بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، اور چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، اللہ کے سوا کسی سے مراد نہیں مانگی جاتی اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتی ہے، ایسے تعویذ بالکل حرام ہیں، اور انسان کو شرک کے قریب پہنچا دیتے ہیں، اسی لئے فقہاء کرام نے فرمایا کہ تعویذ میں اگر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں تو کیا پتہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لی گئی ہو، کوئی شرک کا کلمہ اس کے اندر موجود ہو، اس واسطے ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ استعمال کیا جائے، یا کوئی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا کوئی

دعا ہے جو تعویذ میں لکھ دی گئی تھی تو وہ جائز ہے، لیکن اس میں کوئی ثواب نہیں۔

## تعویذ دینا روحانی علاج نہیں

لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں گویا یہ روحانی علاج ہے، اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے، کوئی روحانی علاج نہیں ہے، وہ ایسا ہی علاج ہے جیسا کہ آپ حکیم کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے، ایسے ہی کسی عامل کے پاس چلے گئے، اس کو روحانی علاج کہنا ہی غلط ہے، وہ بھی جسمانی علاج ہے، اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی تقدس اس سے وابستہ ہے، بس ایک جائز کام ہے۔

## تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا

اور یہ بھی سمجھ لیں، کہ اگر کسی خاص مقصد کیلئے آدمی قرآن کی آیت پڑھتا ہے تاکہ میری بیماری دور ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، مجھے روزگار مل جائے، میری اولاد ہو جائے تو اس میں تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، وہ ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن تلاوت کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب خالص اللہ کے لئے پڑھے، اللہ کے لئے پڑھے گا تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا لیکن اگر وہ کسی ذاتی مقصد کے لئے پڑھ رہا ہے تو جائز ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو بھائی یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔

## علاج کا صحیح طریقہ

و طریقہ اللہ نے بتایا کہ ”قل اعوذ برب الناس“ پڑھو اور جو طریقہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور دعا ایسی چیز ہے کہ

اگر دنیاوی مقصد کے لئے بھی کر رہے ہو تو اس پر بھی ثواب ہے، اگر کوئی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا قرضہ ادا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے روزگار دلواد دیجئے، یا اللہ مجھے اولاد دید دیجئے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفاء دید دیجئے، مانگ رہے ہو اپنے لئے لیکن ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے، عبادت ہے، لیکن تعویذ گنڈے تو کوئی عبادت نہیں ہے، ہاں جائز ہے جیسے اور علاج کرتے ہو یہ بھی علاج ہے، ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز کا حل تعویذ گنڈے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو تعویذ گنڈا دے وہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بہت بڑا پیر ہے، اور اگر نہ دیں تو سمجھیں گے کہ اس نے تو زندگی برباد کر دی، کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں۔

## عجیب و غریب تعویذ

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آکر کہنے لگا کہ کوئی تعویذ دید و فلاں چیز کا، حضرت نے فرمایا کہ مجھے نہیں آتا اس کا کوئی تعویذ، میں دعا کروں گا، کہنے لگا کہ نہیں تعویذ دو تو حضرت نے فرمایا کہ دعا آتی ہے مجھے، تعویذ نہیں آتا مجھے، وہ پیچھے ہی پڑ گیا، دیہاتی آدمی تھا، حضرت نے سوچا کہ دیہاتی آدمی ہے اس کو میں رد کروں گا، تو اس کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایک تعویذ لکھ دیا، اور اردو میں لکھ دیا کہ ”یا اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کی مراد پوری فرما دیجئے“ یہ دعا لکھ کر دیدی، اللہ تعالیٰ نے اسی سے فائدہ کر دیا۔

## تعویذ کی ابتداء

یہ تعویذ نہ قرآن میں آئے اور نہ حدیث میں آئے لیکن پیدا اسی لئے ہوئے کہ کسی بزرگ نے کوبات کوئی کلمہ لکھ کر دیدیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر پیدا کر دی فائدہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں چیز کا تعویذ ہو گیا، یہ بخار کا تعویذ ہے یہ سر کے درد کا تعویذ ہے، اس طرح تعویذ پیدا ہو گئے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی حاجت کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو جو طریقہ قرآن نے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس کو زیادہ اہم سمجھو، اس کو زیادہ موثر سمجھو، اور دوسری چیزوں کو اس کے مقابلے میں کمتر سمجھو، اب الٹا سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا سے افضل سمجھ لینا کہ ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے تو یہ خیال ایک غلط خیال ہے اور یہ قرآن و سنت کو صحیح مرتبہ نہ دینے کے مترادف ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ موثر نہ تعویذ ہے، یہ گنڈا ہے، نہ کوئی اور جھاڑ پھونک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس کو یاد کر لو، نماز حاجت اور اس کے بعد کی جو دعا ہے، اس دعا کو یاد کر کے ہر مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کرنے تو فیق عطا فرمائے۔

آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوے کا تجزیہ

کچھ عرصہ پہلے اسلامی بینکاری کے مسئلے پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم پر اعتراضات لگا کر ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا۔ اس فتویٰ کا جواب جامعہ طیبہ کے استاد الحدیث مولانا ثاقب الدین صاحب نے اپنے بعض رفقاء کے ساتھ مل کر تحریر کیا، جو کتابی صورت میں ”اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوے کا تجزیہ“ کے نام سے شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہے۔

رعایتی قیمت محدود مدت کیلئے ہے۔

~~470/=~~ نہیں۔ صرف =/200

اپنے قریبی اسلامی کتب خانہ سے طلب فرمائیں۔

رعایتی قیمت انتہائی مناسب

الرحمنی و  
مفتی

میں املا پبلشرز

محمد مشہود الحق کلیانوی

0313-920 54 97

0322-241 88 20

E-mail: memonip@hotmail.com

# سادہ زندگی اپنائیے

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## سادہ زندگی اپنائیے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدَاَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُوْلَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَتَسَلَّمَ كَثِيْرًا مَا بَعْدَ :

عن ابى هريره رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبنى الناس بيوتاً يوشوها وشى المرء - آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العلمين.

## قیامت کی ایک نشانی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ



علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ ایسے گھرنہ بنائیں جن کو وہ ایسے نقش و نگار سے آراستہ کریں گے جیسے نقش و نگار والے کپڑے یعنی گھروں میں کپڑوں کی طرح نقش و نگار بنے ہوں گے، اس حدیث کا مقصد قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کو بیان کرنا ہے، یعنی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو خوبصورت، مزین منقش بنانے میں پیسے خرچ کریں گے، اور محنت صرف کریں گے، اس مزین کرنے کو قیامت کی علامت قرار دیکر ایک ہلکا سا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں کہ آدمی گھروں کے نقش و نگار پر اتنی محنت اور اتنے پیسے صرف کرے۔ اس کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اسکی ممانعت نہیں فرمائی، لیکن اس کو علامت قیامت میں شمار کر کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں۔

### یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے

اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے، یہ کوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ تو ہے نہیں، یہ تو ایک عارضی مسافر خانہ ہے، جس میں کچھ دن کے لئے انسان آیا ہے، لہذا اس میں آدمی کو زیادہ توجہ اس بات کی طرف دینی چاہیے کہ وہ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنائے، اور یہاں رہتے ہوئے وہ آخرت کی بہبودی اور بہتری کا سامان کرے، اسی لئے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو، جیسے تم اجنبی ہو، یا مسافر ہو، مسافر جب سفر میں جاتا ہے تو وہ مسافر اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہ نہیں کہ سفر کی منزل میں جی لگا کر بیٹھ جائے، اور اپنا سب کچھ سفر کی منزل پر خرچ کر دے۔

دنیا میں کتنے دن رہنا ہے

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا.

وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا.

فرمایا کہ دنیا کے لئے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے، لیکن تم نے صبح سے لیکر شام تک کی اپنی زندگی اسی دنیا کے درست کرنے پر لٹا رکھی ہے، ایک مومن کا یہ کام نہیں، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مجھے کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، اور کتنے دن آخرت میں رہنا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ابدی ہے، جاودانی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، لہذا یہاں رہتے ہوئے انسان کو زیادہ عمل آخرت کے لئے کرنا چاہیے، اور دنیا کے لئے اتنا کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اس لئے مکان کی بہت زیادہ آرائش اور زیبائش کی لگن پسندیدہ نہیں ہے۔

معاملہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک

راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں، مکان بھی کوئی پختہ اور عالیشان نہیں تھا، بلکہ ایک جھونپڑی تھی، جس کو وہ درست کر رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے اسکو دیکھ کر فرمایا:

الْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ .

فرمایا کہ معاملہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے، یعنی تم اس جھونپڑی کی مرمت میں لگے ہوئے ہو، جبکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آجائے، اس زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، یعنی اس جھونپڑی کی تیاری کے مقابلے میں موت کا معاملہ اور جلدی کا ہے، آپ نے ان صحابی کو مرمت کرنے سے منع نہیں فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ تم کیوں اس کی مرمت کر رہے ہو،؟ حرام اور ناجائز بھی نہیں کہا، لیکن توجہ اس طرف دلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی مرمت میں لگ کر یہ بھول جاؤ کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور آخرت سے غافل ہو جاؤ۔

## دل و دماغ پر آخرت کی فکر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے دل میں ہر وقت آخرت کی فکر اور آخرت کا تصور اس طرح جاگزیں کرتے تھے کہ ہر وقت انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر رہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اور آخرت میرے سامنے ہے، اگر یہ بات حاصل ہو جائے تو ساری زندگی سنور جائے، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ کی

باتیں سنتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ دیکھ رہے ہیں، دل و دماغ پر آخرت کی فکر اس طرح جاگزیں فرمادیتے تھے کہ ہر وقت آخرت کا تصور ایک مومن کے سامنے رہتا تھا۔

### حضور ﷺ کا مکان

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر بالوں کی ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا رہتا تھا، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکان تھا، ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ اس حجرے کے دروازے دو تھے یا ایک دروازہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ دروازہ تو ایک ہی تھا۔ اتنا سادہ مکان تھا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سادگی اختیار کر کے دکھادی۔

### میرا دنیا سے کیا کام

آپ نے فرمایا:

مَا لِي وَالدُّنْيَا مَا أَنَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَنْظَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا کام! میری مثال تو ایک ایسے سوار کیسی ہے، جو سوار ہو کر کہیں جا رہا ہے، اور اس نے سفر کے دوران تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کے نیچے سایہ لیا، اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا، اس طرح سادگی کے ساتھ حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی۔

## گھر کا نقش و نگار علامت قیامت

جس ذات نے اس سادگی کے ساتھ زندگی بسر فرمائی ہو، جسکے سامنے ہر وقت آخرت کا منظر ہو، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایسے گھر بنا بیٹگے جن پر دیدہ زیب اور خوشنما قسم کے نقش و نگار ہوں گے جیسے نقش و نگار کپڑوں پر بنائے جاتے ہیں، آپ نے اس چیز کو حرام تو نہیں فرمایا، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسے نقش و نگار بنانے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، اگر آخرت سامنے ہوتی تو جتنا وقت، جتنا پیسہ، جتنی محنت وہ اس نقش و نگار میں صرف کر رہا ہے، اسکے بجائے وہ اتنی محنت، اتنا پیسہ، اتنا وقت اپنے آخرت کے گھر کو بنانے میں صرف کرتا، اسلئے آپ نے فرمایا کہ یہ عمل علامات قیامت میں سے ہے۔

یہ تقویٰ کے خلاف ہے

آج ہم اپنے گرد و پیش میں نظر اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ علامت کس طرح پوری ہو رہی ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ کس کس طرح گھروں کو مزین اور منقش کیا جا رہا ہے، یہ تو ہے تقویٰ کہ آدمی آخرت کو پیش نظر رکھے، اور دنیا سے اتنا جی نہ لگائے، جہاں تک فتویٰ کا تعلق ہے اور مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ کتنا نقش و نگار جائز ہے؟ تو وہ مفتی یہی جواب دیگا کہ اگر خلاف شرع نقش و نگار نہ ہو، مثلاً تصویر وغیرہ نہ ہو تو اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہیں گے۔

مکان کا پہلا درجہ

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ

درجات بیان فرمائے ہیں، فرمایا کہ ایک درجہ مکان کا یہ ہے کہ وہ مکان قابل رہائش ہو، وہ مکان ایسا ہے کہ آدمی اس کے اندر زندگی بسر کر لے، اور دھوپ سے بچاؤ ہو جائے، بارش سے بچاؤ ہو جائے، موسم کے برے اثرات سے بچاؤ ہو جائے، مثلاً ایک مکان بنایا، اس میں نہ پلستر کرایا، اور نہ رنگ و روغن کرایا، تو ایسا مکان رہائش کے قابل ہے۔

### مکان کا دوسرا درجہ

دوسرا درجہ مکان کا یہ ہے کہ رہائش کے ساتھ اس مکان میں آسائش اور آرام کا بھی خیال رکھا گیا ہے، مثلاً اگر کسی مکان پر ٹین کی چادروں کی چھت ہو تو ایسا مکان رہائش کے قابل تو ہے، لیکن اس مکان میں آسائش اور آرام نہیں، اس لئے کہ اگر بارش ہو جائے تو وہ چھت ٹپکنے لگتی ہے، پانی اندر آ جاتا ہے، گرمی میں ٹین کی چادریں گرم ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس مکان میں رہائش تو ہے، لیکن آسائش نہیں، اب اگر آسائش اور آرام حاصل کرنے کے لئے چھت کچی ڈلوادو تاکہ بارش میں ٹپکے نہیں، اور گرمی میں زیادہ تپے نہیں تو یہ آسائش ہے، یہ بھی شرعاً جائز ہے، اور شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔

### مکان کا تیسرا درجہ

تیسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہے، آسائش بھی ہے، آرام بھی ہے، لیکن آرائش نہیں، یعنی اس مکان میں کوئی سجاوٹ نہیں ہے، مثلاً گھر بنا لیا، لیکن اس میں

پلستر نہیں کیا، یا پلستر کر لیا، لیکن رنگ و روغن نہیں کیا، تو ایسا مکان قابل رہائش بھی ہے، اور فی الجملہ اس میں آرائش بھی حاصل ہے، لیکن آرائش نہیں ہے، اس لئے کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، اب اگر کوئی شخص اپنا دل خوش کرنے کے لئے اس مکان پر رنگ و روغن بھی کروالے، اور اس کو مناسب درجے میں خوبصورت بنا لے تو یہ آرائش حاصل کرنا بھی شرعاً جائز ہے، بشرطیکہ اس آرائش سے مقصد اپنا دل خوش کرنا ہو، کہ یہ میرا گھر ہے، جب میں اس گھر میں داخل ہوں تو مجھے آرام بھی ملے، اور اس مکان کو اچھا اور خوبصورت دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو، تو اس نیت سے آرائش کرنے پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی، ناجائز قرار نہیں دیا، حرام نہیں کیا۔

### دو بھائیوں کا واقعہ

البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ جب گھر کے اندر رہائش بھی ہے اور آرائش بھی حاصل ہے، آرائش بھی حاصل ہے، اور وہ مکان اچھا بھی لگ رہا ہے تو جب اس گھر میں داخل ہو تو اللہ کو یاد کرو کہ یہ مکان میرے اللہ کی عطا ہے، یہ طریقہ بھی قرآن نے بتا دیا: سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کی مثال بیان فرمائی کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی مؤمن تھا، اور ایک بھائی کافر تھا، جو کافر بھائی تھا، اس کے بڑے عمدہ قسم کے بڑے شاندار باغ تھے، اس باغ میں ہر طرح کے پھل تھے، اور ہر طرح کے منافع اس کو حاصل تھے، جو مؤمن بھائی تھا، وہ کم مال والا تھا، اس کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں تھی، وہ کافر بھائی اپنے مال و دولت پر فخر کیا کرتا تھا، اور اپنے بھائی سے کہتا کہ میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے، اور میری جماعت بھی تجھ

سے زیادہ ہے، میرے ملنے والے، میرے دوست احباب، اور میرے معاونین بھی تجھ سے زیادہ ہیں، تیرا مال بھی کم ہے، اور تیرے پاس مددگار بھی کم ہیں، اور جب اپنے باغ میں داخل ہوتا تو اپنے بھائی سے کہتا کہ تو جو یہ کہتا رہتا ہے کہ ایک دن یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔

مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا . وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِنْ

رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا . (الکہف: ۲۰، ۲۱)

میرا خیال تو نہیں کہ یہ اتنا شاندار باغ اور اتنا عالیشان باغ یہ سب کبھی ختم ہو جائیں گے اور میرا یہ خیال نہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اگر باغ فرض اس کا مؤمن بھائی اس کو سمجھاتا کہ ارے بھائی: یہ سب کچھ باغ اور اس کے پھل وغیرہ یہ سب اللہ جل شانہ کی عطا ہے، اس لئے اس باغ پر مت اترا، اس پر تکبر اور فخر مت کر بلکہ اس کے بجائے جب تو اس باغ میں داخل ہوا کرے تو یوں کہا کر:

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (الکہف: ۲۹)

گھر میں داخل ہوتے وقت یہ کہو

اس کے ذریعے قرآن کریم نے ہم سب کو یہ سبق سکھا دیا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، یا اپنی کسی جائیداد میں داخل ہو، اور وہ اچھی لگے تو زبان سے یہ الفاظ کہے کہ، ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اور جو کچھ مجھے ملا ہے، وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں کسی کو قوت حاصل نہیں، کسی کے بس میں نہیں تھا



کہ وہ اپنے زور بازو سے یہ مکان بنا لیتا، یہ باغ کھڑا کر دیتا، یہ جائداد بنا لیتا، یہ جو کچھ ہے، سب اللہ جل شانہ کی عطا ہے۔ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ،

## کافر کے باغ کا انجام

وہ مؤمن بھائی اس سے یہ کہتا کہ اگرچہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس مال کم ہے، میری اولاد کم ہے، یہ تو دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر باغ دیدیں، اور تیرے باغ کو تباہ کر دیں، اس لئے تجھے اس باغ کے ہونے پر اکڑنا اور اترانا نہیں چاہیے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ بعد میں اس کافر کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس باغ کو جس کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کو اس طرح تباہ کیا کہ بعد میں پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی باغ ہوا کرتا تھا۔

## گھر کی نعمت پر اللہ کا شکر

اس واقعہ کو نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیدیا کہ جب آدمی اپنی کسی نعمت میں داخل ہو، جو اس کی آنکھ کو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو یہ الفاظ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ: لہذا جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھر کی نعمت حاصل ہو، وہ گھر رہائش کے قابل بھی ہے، اس میں آسائش بھی ہے، آرائش بھی ہے، تو پھر ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ جب اس میں داخل ہو تو وہ یہ کہے کہ: ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ: اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ! میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمادی: اللهم لك الحمد و

لک الشکر: اے اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، اس کا بنانا میرے بس میں نہیں تھا، یہ آپ کی عطا ہے، جب وہ یہ عمل کریگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس گھر کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔

### حضور ساری تکلیفیں جھیل گئے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شکر بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، آج کل ہم لوگ ایسے دور میں ہیں کہ الحمد للہ دنیا میں ہر ایک کو ایسی نعمتیں میسر ہیں کہ عہد رسالت میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں تھا، آج کے دور کا غریب سے غریب تر آدمی بھی کھجور کی ٹہنیوں سے گھر بنانے کا تصور نہیں کرے گا کہ میں کھجور کی ٹہنیوں سے گھر بنا کر اس میں زندگی گزاروں، اور اس پر ٹاٹ کے پردے لٹکا دوں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے گھر میں زندگی گزار دی، آج کوئی اس بات کا تصور کرے گا کہ تین مہینے تک گھر میں چولہا نہ جلے، اور صرف کھجور اور پانی سے گزارہ ہو، کوئی غریب سے غریب تر ان باتوں کا تصور نہیں کرے گا، ساری سختیاں آپ نے جھیل لیں کہ دو وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہ ساری سختیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جھیلیں ہیں، آج ہم میں سے کسی کا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ان سختیوں کا تصور بھی کر سکے۔

امت کیلئے آسانی کے دروازے بند نہیں کئے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اتنی سختیاں گزار گئے، اور خود تو اتنی

مشکلات والی زندگی بسر کر کے تشریف لے گئے، لیکن اپنی امت کے لئے دروازے بند نہیں کئے، اور یہ نہیں فرمایا کہ اگر جنت چاہتے ہو تو ایسی زندگی گزارو، اس کے بغیر تمہیں جنت نہیں ملے گی، بلکہ امت کے لئے آسانی اور وسعت والا راستہ اختیار فرمایا، اگر آج ہم سے یہ مطالبہ ہوتا کہ تم اس وقت تک نجات نہیں پاؤ گے، اور تم اس وقت تک اللہ کے محبوب نہیں بن سکو گے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار نہیں کر سکو گے، جب تک تم اس طرح کی زندگی نہ گزارو جس طرح کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے گزاری تو اس مطالبہ پر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، اور اولیاء اس میں قیل ہو جاتے، کس میں یہ طاقت ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارنے کا حوصلہ کر لے۔

### میرے سرکار نے بھی تو ایسی زندگی گزاری

رحمۃ للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ خود یہ سختیاں برداشت کر کے امت کے ادنیٰ ترین غریب ترین فرد کے لئے مثال قائم کر گئے، ورنہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوتی، اور شاندار مکانات میں رہے ہوتے، اور اچھا کھانا کھایا ہوتا، اور زندگی کے لطف اور مزے حاصل کئے ہوتے تو اس امت کے غریب افراد یہ سوچتے کہ ہم تو بہت محروم رہ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے غریب ترین فرد کی سطح پر آ کر زندگی گزاری، تاکہ امت کے غریب سے غریب آدمی کو یہ بھی تسلی رہے کہ میرے سرکار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے۔

## ان نعمتوں پر شکر ادا کرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ مجاہدہ تم کہاں سے کرو گے، جو مجاہدہ صحابہ کرام کر گئے، البتہ اتنا کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اور تمہیں یہ فراخی اور خوش عیشی دی ہے تو کم از کم ان پر شکر ادا کرنے کی تو عادت ڈال لو، اور جب کبھی کوئی نعمت حاصل ہو اس وقت یہ تصور کرو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سختی کی زندگی گزاری، یہ تصور کرو کہ صحابہ کرام نے کیسی سختی کی زندگی گزاری، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فراخی اور یہ خوش عیشی عطا فرمائی ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی فاقہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی فاقہ کرنے کا تصور تک نہیں دیا، اور جن گھروں میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ایسے گھروں میں کبھی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں آیا، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں: اللهم لك الحمد ولك الشکر۔ لہذا جب گھر میں داخل ہو، اور یہ نعمتیں سامنے آئیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور کہو: ماشاء اللہ لاقوة الا باللہ۔ اور یہ کہو: اللهم لك الحمد ولك الشکر

## یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں

جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرو تو یہ سوچو کہ ہم یہ جو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ رخصت کا مقام ہے، یہ عزت کا مقام نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دیدی ہے کہ چونکہ تم کمزور ہو، لہذا اس طرح زندگی گزار لو،

ورنہ یہ دنیا اس لائق نہیں تھی کہ اس میں ایسے مکان بنائے جاتے، ایسے عیش و عشرت کے اندر رہا جاتا، یہ دنیا تو ایک گزرگاہ تھی، یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ تھی، لہذا ہمیں مسافروں کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، اور دوسرے یہ سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، اور ہم ان کے مقابلے میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔

بیس تفاوت راہ از کجاست تابکجا

چہ نسبت خاک را بعالم پاک

ہماری اور ان کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کا تصور کرو، اور پھر اس بات پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں کے استعمال کو حلال بھی کر دیا، جائز بھی کر دیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر ادا کرنا

اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تصور کرو کہ اس نعمت کو حاصل کرنا میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے: ماشاء اللہ لاقوة الا باللہ۔ اور اس کے بعد جب اس نعمت سے لذت اٹھاؤ تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ شکر بھی اللہ سے مانگو، اس لئے شکر کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، شکر کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ دیکھئے! حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا تھا، حکومت دی، سلطنت دی، محلات دیے، خشم و خدم دیے، غلام دیے، انسانوں پر حکومت دی، جنات پر حکومت دی، چرندوں اور پرندوں پر

حکومت دی، جب یہ نعمتیں حاصل ہوئیں تو آپ نے فرمایا:

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى  
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْجَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي  
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ .

(النمل: ۱۹)

اے میرے پروردگار، مجھے اس بات کی توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، یعنی صرف شکر ادا نہیں کیا، شکر کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے شکر مانگا کہ یا اللہ، جب تک آپ کی طرف سے شکر کی توفیق عطا نہیں ہوگی میں شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہذا شکر کرنا بھی آپ ہی سے مانگتا ہوں، اور یا اللہ! نعمتیں تو آپ نے ساری دی ہیں، لیکن میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ کا شکر ادا کروں، اور یہ مانگتا ہوں کہ ایسا نیک عمل کروں جو آپ کو پسند آجائے، یعنی کوئی نیک عمل اپنی ذات میں نیک عمل نہیں، جب تک کہ وہ عمل آپ کو پسند نہ ہو، اور آپ کی رضا کے مطابق نہ ہو، اور اے اللہ، اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل کر لیجئے، ایک مؤمن اور ایک کافر میں یہی فرق ہے۔

### ناشکری کی وجہ سے قارون کا انجام

دیکھئے! قارون کو صرف خزانہ ملا اسکو حکومت نہیں ملی، نہ انسانوں پر ہے، نہ جنات پر، نہ چرندوں اور پرندوں پر، صرف دولت مل گئی تو وہ اس پر کہتا:

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

(القصص: ۷۸)

یہ دولت تو مجھے اپنے علم کی بدولت ملی ہے، میرا ہنر ایسا تھا، میرا علم ایسا تھا کہ

اس کی وجہ سے یہ دولت حاصل ہوگئی، اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری دولت اس کے لئے زمین میں دھنسنے کا ذریعہ بن گئی۔

## حضرت سلیمان کی کیفیت

دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ ان کے پاس اتنی بڑی حکومت تھی کہ دنیا میں آج تک کسی کو اتنی بڑی حکومت نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود ان کا سینہ تنا ہوا نہیں، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا ہوا ہے کہ اے اللہ! میں تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں، اپنی رحمت سے مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دیدیتے، اور اس بات کی توفیق دیدیتے کہ ان نعمتوں کو صحیح استعمال کر لوں، اور آپ کو راضی کرنے والے عمل کر لوں،

## اس کی قدر کرو

آج اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہم سب اپنے پختہ مکانات کو چھوڑ کر جھونپڑوں میں رہنے لگیں تو سب یہ سن کر بھاگ جائیں گے، کسی کے بس کا یہ کام نہیں، لہذا یہ مطالبہ نہیں، البتہ مطالبہ تم سے یہ ہے کہ جو نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے، اسکی قدر کرو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کی، اور نہ صحابہ کرام نے ایسی زندگی بسر کی، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عیش و عشرت کی زندگی دیدی ہے، اس کی قدر کرو، اور اس کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی عطا کا دھیان کرو، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ یا اللہ! جب آپ نے ہمیں یہ نعمت دیدی ہے تو اس نعمت کو آپ اپنی مرضیات میں استعمال بھی کرائیے،

اپنی رضا کے کاموں میں استعمال کرائیے، اور اس کو میرے لئے آخرت کا ذریعہ بنائیے، اور اس کو جہنم کا ذریعہ نہ بنائیے۔

## ایک ایک نعمت پر شکر

گھر اچھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، گھر کا ساز و سامان اچھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کھانا سامنے آیا، اور برتن اچھے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پانی پیا اور گلاس اچھا لگا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، بستر اچھا ہے، کمرہ اچھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جو بھی نعمت ہو، اس کو دیکھو، اور غور کرو، اور کہو، ماشاء اللہ لاقوة الا باللہ، اور دعا کرو کہ یا اللہ! ہم شکر تو ادا کر سکتے ہی نہیں، آپ کی نعمتوں کا شکر ہم سے ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ شکر ادا کرنے کی توفیق دید دیجئے۔

## رات کو سوتے وقت شکر کے الفاظ

رات کو سوتے وقت ذرا اہتمام کے ساتھ نعمتوں کا جائزہ لے لیا کرو، کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، جائزہ لے کر ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرو، اور یہ کہو:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ رِضَا  
نَفْسِكَ، وَعَدَدَ نِعَمِكَ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ زِينَةَ عَرْشِكَ، اللَّهُمَّ  
لَكَ الْحَمْدُ مِذَاذَ كَلِمَتِكَ، اللَّهُمَّ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ  
كَمَا أَنْبَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ .



اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے، آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کے کلمات لکھنے کے لئے سیاہی درکار ہے، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کی مخلوقات کی گنتی ہے، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کی نعمتیں ہیں، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جس سے آپ راضی ہو جائیں، اے اللہ! میں تو آپ کی ثناء کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تو آپ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، آپ ویسے ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی خود شنا کی ہے۔

### شکر کے اور الفاظ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مَعَ خُلُودِكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهٰى لَهٗ دُوْن مَشِيَّتِكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيْدُ قَائِلُهٗ اِلَّا رِضَاكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَ تَنْفُسٍ كُلِّ نَفْسٍ.

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے الفاظ سکھائے کہ ہم کہاں سے ایسے الفاظ لاتے، ایسے الفاظ سے حمد کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا، لیکن آپ نے ہمیں سکھا دیے، فرمایا کہ یہ کہو کہ اے اللہ! آپ کے لئے ہمیشگی والا شکر جب تک کہ آپ ہمیشہ باقی ہیں، اے اللہ! آپ کے لئے ایسا شکر کہ اس شکر کی انتہاء آپ کی مشیت کے بغیر نہ ہو، یعنی جب تک آپ کی مشیت اس شکر کے ساتھ ہو، وہ شکر جاری رہے، اے اللہ! آپ کے لئے ایسا شکر کہ اس شکر ادا کرنے والے کا مقصد صرف آپ کی رضامندی ہو، اے اللہ! ہر پلک جھپکنے پر آپ کا شکر، اور اے اللہ! ہر

سانس کے آنے جانے پر آپ کا شکر، بتائیے، یہ کس کے بس میں تھا کہ شکر کے لئے ایسے الفاظ لاتا، اور شکر کا یہ انداز اختیار کرتا، یہ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شکر کا یہ انداز اور یہ الفاظ سکھا گئے۔

### شکر کے نتیجے میں فتنہ سے حفاظت

رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا استحضار کر کے اس طرح شکر ادا کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ! میرے بس میں تو نہیں کہ ہر نعمت کا علیحدہ علیحدہ شکر ادا کر سکتا، لیکن اس وقت اتنا شکر ادا کر رہا ہوں، اے اللہ! جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے، اتنا شکر جتنی آپ کی مخلوقات کی گنتی ہے، اے اللہ! اتنا شکر جتنی آپ کے کلمات کے لکھنے کے لئے سیاہی درکار ہے، جب رات کو سونے سے پہلے اس طرح شکر ادا کرو گے تو کچھ نہ کچھ تو حق ادا ہو جائے گا، انشاء اللہ، اس شکر کی بدولت اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو تمہارے حق میں فتنہ بننے سے محفوظ رکھیں گے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (حوالہ)

یعنی یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور آزمائش ہے، پتہ نہیں کب یہ تمہارے قدموں کو ڈگمگا دے، کب تمہیں غلط راستے پر ڈال دے، کب تمہارے دل میں دنیا کی محبت اس طرح بیوست کر دے کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ، جب اللہ کی نعمتوں کا اس طرح سے شکر ادا کرو گے جس طرح اوپر بتایا تو انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو تمہارے حق میں فتنہ بننے سے محفوظ

کردیں گے، پھر یہ نعمت تمہارے حق میں زادِ آخرت بن جائے گی۔

## مکان کا چوتھا درجہ حرام ہے

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھانوں رحمۃ اللہ علیہ نے مکان کے چار درجے بیان فرمائے، ایک رہائش، ایک ایک آسائش، ایک آرائش، یہ تین درجے تو جائز ہیں، بشرطیکہ وہ کام کرو جو اوپر عرض کئے کہ جب اس مکان میں داخل ہو تو کہو: ماشاء اللہ لا قوۃ الا بالہ، اللہم لك الحمد ولك الشکر۔ البتہ چوتھا درجہ ہے، نمائش، یہ حرام ہے، زہر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں کہ مکان بنایا جو قابل رہائش تھا، اس میں آرام کا انتظام بھی کر لیا، آرائش کا بھی انتظام کر لیا، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ سوچا کہ آج کل فلاں کام کا فیشن چلا ہوا ہے، جب تک وہ کام نہیں کرائیں گے، تو لوگ میری وقعت نہیں کریں گے، لہذا مکان میں یہ کام بھی ہونا چاہیے، اب وہ کام صرف نمائش کے لئے کرایا جا رہا ہے، لہذا وہ کام حرام اور ناجائز ہے۔

## لباس میں چار درجے

اور جو حکم مکان کا ہے، وہ لباس کا بھی ہے، اور لباس کے اندر بھی چاروں درجات ہیں، اگر ٹائٹ کا لباس بنا کر پہن لیا، اس سے ستر پوشی ہوگئی، مقصد حاصل ہو گیا، اگر ایسا لباس بنا لیا جو ذرا آرام دہ ہے، باریک لباس ہے اس میں گرمی زیادہ نہیں لگتی، یہ دوسرا درجہ یعنی آسائش ہے، اور اگر اس لباس میں تھوڑی سی زینت حاصل کر لی، تاکہ ذرا دل خوش ہو جائے، یہ آرائش ہے، جو جائز ہے، لیکن اس خیال

سے خاص لباس سلوایا کہ آج کل فیشن یہ چلا ہوا ہے اگر اس طرح کا لباس نہیں سلوایا تو ناک کٹ جائے گی، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ دقیا نوس ہے، یہ بیک ورڈ ہے، اب لباس میں جو تصرف کیا جا رہا ہے، وہ یہ بتانے کے لئے کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اسی دور کے باشندے ہیں۔ ہم بھی اسی فیشن ایبل زمانے کے لوگ ہیں، لہذا فیشن کے مطابق ہم لباس پہنیں گے، فیشن کے مطابق مکان بنائیں گے، اب یہ سب کام نمائش اور دکھاوے کیلئے اپنے کو بڑا قرار دینے کے لئے ہو رہے ہیں، اور لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے کے لئے ہو رہے ہیں، اپنی دولت کی نمائش کے لئے ہو رہے ہیں، لہذا یہ کام حرام اور ناجائز ہیں، اس کی اجازت نہیں، لہذا تین درجے تو جائز ہوئے، یعنی رہائش، آسائش، آرائش، اور چوتھا درجہ ہے نمائش جو حرام ہے، اس سے ہر مؤمن کو پرہیز کرنا چاہیے۔

### کھاؤ بھی من بھاتا، پہنو بھی من بھاتا

اسی لئے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے چاہے لباس اچھا پہن لو، چاہے مکان اچھا بنا لو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرو، لیکن لوگوں کے دکھانے کی خاطر کوئی کام نہ کرو، ہمارے یہاں ہندی کی ایک مثال مشہور ہے کہ:

کھاؤ من بھاتا، پہنو جگ بھاتا۔

جگ ہندی زبان میں دنیا کو کہا جاتا ہے، من کے معنی ہیں، دل، بھاتا، کے معنی ہیں، پسند آنا، مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کھاؤ جو اپنے دل کو پسند ہو، یہ نہ ہو کہ خود کو

وہ چیز پسند نہیں، لیکن لوگوں کو پسند ہے، اس لئے کھا رہے ہیں، اور لباس ایسا پہنو جو ساری دنیا کو پسند آئے، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، یہ ہندی کی مثل ہے، لیکن یہ مثل اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ:

کھاؤ بھی من بھاتا، پہنو بھی من بھاتا

یعنی اپنی پسند کا کھاؤ، اور اپنی پسند کا پہنو، یہ نہیں کہ جو جگ پسند کرے آدمی وہ پہنے، چاہے اپنے کو پسند ہو یا نہ ہو، لہذا کھاؤ بھی من بھاتا اور پہنو بھی من بھاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

خلاصہ

بہر حال، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے یہ بات بیان فرمائی کہ مکان کو اس طرح نقش و نگار سے آراستہ کرنا جس طرح کپڑوں کو کیا جاتا ہے، اور مکان کے نقش و نگار میں غلو کرنا اور اسراف کرنا ٹھیک نہیں، جتنی سادگی اختیار کر سکو، اتنا بہتر ہے، یہ کام حرام اور ناجائز نہ سہی، لیکن مزاج شریعت اور مزاج دین کے زیادہ مطابق یہ ہے کہ جتنی سادگی کی زندگی بسر کر سکو اتنا بہتر ہے، اس حدیث کی یہی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

# افضل صدقہ کونسا؟

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب  
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعہ

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## افضل صدقہ کونسا؟

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدًا وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيَهُ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ اصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. اَمَّا بَعْدُ!

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله: أتى الصدقة أعظم أجرًا قال أن تصدق وأنت صحيحٌ شحيحٌ. تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تبهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا. وقد كان لفلان. (صحيح البخارى. كتاب الوصايا. باب الصدقة عند الموت)

اَمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ وَالشُّكْرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

سب سے افضل صدقہ

یہ بھی عجیب حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے



ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ای صدقہ اعظم اجرا۔ یا رسول اللہ! کون سے صدقہ سب سے زیادہ اجر والا ہے؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم صحت کی حالت میں کرو، اور اس حالت میں جس وقت تمہارے دل میں مال کی محبت ہے، صحیح، کے معنی تندرست، اور شحیح کے معنی، دل میں مال کی محبت ہونا، اور تمہیں اس بات کا اندیشہ بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں، تنگدست ہو جاؤں، اور اس بات کی امید بھی ہو کہ شاید تمہارے پاس مال زیادہ آجائے تو تم غنی اور مال دار ہو جاؤ، ایسے وقت میں جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔

### صدقہ میں تاخیر مت کرو

پھر آگے ارشاد فرمایا: ولا تمهل، یعنی صدقہ کرنے میں دیر مت کرو، اس کو ٹلاؤ نہیں، یہاں تک کہ جان تمہاری حلق تک پہنچ جائے، اور نزع کا عالم طاری ہو جائے، تو اس وقت تم یہ کہو کہ فلاں کو اتنا مال دیدو، فلاں کو اتنا دیدو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس لئے کہ اب تو وہ مال تمہارا رہا ہی نہیں، اب تو یہ مال تمہارے وارثوں کا ہو گیا، اب تمہارے پاس اس مال کو دوسرے کو دینے کی گنجائش ہی نہیں، بہر حال! صدقہ میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس حالت میں کرو جب تم صحت مند ہو۔

### مرض الموت میں مال کی ملکیت میں کمی

اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جائے، اور اسی بیماری

میں اس کا انتقال ہو جائے، تو ایسی بیماری کو مرض الموت کہا جاتا ہے، اور مرض الموت میں پہنچنے کے بعد انسان کی ملکیت اپنے مال پر محدود ہو جاتی ہے، پوری زندگی میں جس مال کو وہ اپنا مال کہتا رہا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری گاڑی ہے، ادھر اس کا مرض الموت شروع ہوا، ادھر اس کی ملکیت میں کمی آگئی، اب اس کے مال پر اس کی ملکیت نہیں رہی، اب اگر اس وقت میں کسی کو اپنا مال دینا چاہے تو ایک تہائی سے زیادہ نہیں دے سکتا، اگر کسی کے لئے وصیت کرنا چاہے کہ فلاں کو اتنا مال دیدو، یا میرا اتنا مال فلاں مسجد میں لگا دینا تو اب ایک تہائی سے زیادہ پر یہ وصیت جاری نہیں ہوگی، اس لئے کہ اب اس کے مال کے ساتھ اس کے ورثاء کا حق متعلق ہو گیا، لہذا اب تمہیں جائز نہیں کہ تم اس مال کو صدقہ کرو، یا ہبہ کرو، یا مسجد میں لگاؤ، ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اس مال سے اپنے نماز روزے کا فدیہ بھی نہیں دے سکتے، بس اب ایک تہائی کی حد تک دے سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں۔

## انسان کے مال کی حقیقت

یہ ہے انسان کے مال کی حقیقت جس کو وہ اپنا مال کہہ رہا ہے، جس کی خاطر دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، جس کے اوپر دنیا آخرت ایک کر رکھی ہے، لیکن وہ مال مرض الموت شعلوے ہوتے ہی انسان کے تصرف سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ اب یہ مال اس کا نہیں رہا، اب یہ مال وارثوں کا ہے، لہذا ایک تہائی کی حد تک تصرف کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

صدقہ کرنا اس وقت فائدہ مند ہے جب انسان صحت مند ہو۔

## صحت میں انسان کی کیفیت

انسان کی طبیعت بھی عجیب ہے کہ جب تک وہ صحت مند ہے تو اس وقت خوب سینہ تان کے چلتا ہے، اور کبھی اس کو یہ دھیان نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو جاؤں، اور نہ دنیا سے جانے کا دھیان آتا ہے، اور صحت کے عالم میں مزے اڑانے کا تصور آ رہا ہے، عیش و عشرت کا تصور آ رہا ہے، مرنے کا تصور نہیں آتا، بیمار ہو جانے کا تصور نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا تصور نہیں آتا، صحت کے عالم میں یہ امنگ ہوتی ہے کہ ان پیسوں کو عیش و عشرت میں استعمال کروں، ان سے مزے اڑاؤں، اور اس کے ذریعے دنیا کی مزید دولت جمع کروں، اس وقت اگر صدقہ کرو گے تو امنگوں کو کچل کر صدقہ کرو گے، اس صدقہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب زیادہ ہے۔

## مال سے محبت کے وقت صدقہ کرو

آگے فرمایا کہ: شحیح یعنی اس حال میں صدقہ کرو جب تمہارے دل میں مال کی محبت ہو، اس وقت صدقہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ نہیں کہ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے جانے کا وقت آچکا ہے، اور ساری دولت چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا ہے، اور اپنے ساتھ قبر میں لے جا نہیں سکتا، اس لئے اس وقت دل میں مال کی محبت اس درجے میں نہیں رہی، اس لئے اس وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو صدقہ ہی کر دو، جیسے کہتے ہیں ”مری بکری اللہ میاں کے نام“ اس وقت

میں صدقہ کرنے پر اتنا اجر و ثواب نہیں، اس لئے فرمایا کہ جس وقت مال کی محبت دل میں ہے، اور نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اس مال کو جمع کر کے اپنے پاس رکھ لے، اور اس کے ذریعے عیش و عشرت کا سامان جمع کر لے، اس وقت اگر نفس کے اس تقاضے کو دبا کر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔

قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ (حوالہ)

یعنی جو شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، یتیموں اور مسکینوں کو دیتا ہے، باوجودیکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ مال کو اپنے پاس روک کے رکھو، لیکن وہ شخص اس کے برعکس محبت کے تقاضے کو دبا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہے، یہ صدقہ باعث اجر و ثواب ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. (حوالہ)

یعنی وہ لوگ یتیم کو مسکین کو، اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اس وقت جبکہ مال کی محبت دل میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر تشبیہ فرمائی کہ ہم جو تمہیں صدقہ کرنے پر اجر دیتے ہیں تو تمہارے دل میں مال کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی صدقہ کرنے پر اجر زیادہ ملے گا، ایک اور جگہ فرمایا۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (حوالہ)

یعنی تم اس وقت تک نیکی اور تقویٰ کا مقام حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم اس مال سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔

## قدر و قیمت گنتی کی نہیں

لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر و قیمت گنتی کی نہیں ہے، بلکہ اس جذبہ کی قدر و قیمت ہے جس جذبے کے ساتھ صدقہ کیا جا رہا ہے، کہ اس آدمی کو مال کی محبت صدقہ کرنے سے روک رہی تھی، اس کے راستے میں مال کی محبت رکاوٹ بن رہی تھی، اسکو صدقہ کرنے کی طرف جانے نہیں دے رہی تھی، اس کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا دھیان کر کے اپنی اس محبت کو کچل دیا، جب اس محبت کا کچلا، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال صدقہ کر دیا، تو یہ کچلی ہوئی محبت کشتہ بن گئی، اور اس کے اندر قوت پیدا ہو گئی، اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔

اس لئے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ہے جو صحت کی حالت میں ہو، اور دل میں مال کی محبت ہونے کی حالت میں ہو، اور اس وقت یہ بھی اندیشہ ہو کہ کہیں صدقہ کرنے کے نتیجے میں میں تنگ دست نہ ہو جاؤں، اور صدقہ نہ کرنے کے نتیجے میں مال داری کی امید بھی ہوتی ہے، اس وقت میں صدقہ کرنا افضل ہے۔

## صدقہ کرنے کی جلدی کرو

پھر آگے فرمایا کہ جب دل میں صدقہ کرنے کا تقاضہ پیدا ہو تو اب دیر نہ کرو، جب دل میں داعیہ پیدا ہو تو اس داعیے پر عمل کر لو، یہ بات صرف صدقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام نیکیوں کا یہی حال ہے، مؤمن کے دل میں جب کسی نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ نیک کام کر لو تو اس وقت شیطان ڈنڈی مارنے کی کوشش

کرتا ہے، وہ شیطان اس مؤمن سے یہ نہیں کہتا کہ جو تو نیک کام کرنے جا رہا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ مؤمن اس کی بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان اس سے یہ کہتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، تمہارے دل میں بڑا اچھا داعیہ پیدا ہوا ہے، یہ نیک کام ضرور کرنا چاہیے، مگر اس کام کو کرنے کی جلدی کیا ہے؟ کل کر لینا۔ پرسوں کر لینا، شیطان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی مؤمن کے دل میں کسی نیکی کا داعیہ پیدا ہوگا، وہ اس میں دیر کرائے گا، اس کو موخر کرائے گا، اس کو ٹلائے گا، اب جو شخص شیطان کے اس جال میں آجاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کل آتی ہے تو پھر اس سے کہتا ہے کہ جلدی کیا ہے؟ کل کر لینا، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، اس طرح شیطان اس نیک کام کو ٹلاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ داعیہ کمزور ہو کر ختم ہو جائے گا، اور اس کو نیک کام کرنے نہیں دے گا۔

### اب یہ مال فلاں کا ہو چکا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص نیک کام کرنے کو اور صدقہ کرنے کو ٹلاتا چلا گیا، اور یہ سوچتا رہا کہ یہ رقم صدقہ جاریہ میں لگاؤں گا، اس کے ذریعے مسجد بناؤں گا، فلاں جگہ لگاؤں گا، لیکن لگایا نہیں، یہاں تک کہ موت کے دروازے پر پہنچ گیا، اور جان حلق میں آ کر اٹک گئی، اس وقت یہ سوچتا ہے کہ چلو اب اس داعیے کو پورا کر لوں، اور کہتا ہے کہ فلاں کو اتنا دیدو، فلاں کو اتنا دیدو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب کیا کہہ رہے ہو فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، ارے یہ مال اب تو کسی اوز کا ہو چکا، وہ مال تو وارث کا ہو چکا، بہر حال! کبھی

شیطان کے اس داؤ میں نہ آؤ، جب کبھی اللہ تعالیٰ دل میں نیکی کا داعیہ پیدا فرمائیں، چاہے وہ صدقہ کا داعیہ ہو، عبادت کا ہو، نیکی کا ہو، خیرات کا ہو، نماز کا ہو، ذکر کا ہو تلاوت کا ہو، اس داعیے کو ٹلاؤ نہیں، بلکہ فوراً اس پر عمل کرو، اس لئے کہ ٹلانے کے نتیجے میں اس پر عمل کرنے کی پھر نوبت نہیں آئے گی، لہذا اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرو۔

### تردد کی صورت میں مشورہ کر لو

زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ اگر اس نیک عمل کے کرنے میں کچھ تردد ہو تو اپنے بڑے سے، اپنے شیخ سے، اپنے رہنما سے مشورہ کر لو، کہ دل میں اس نیک کام کا داعیہ، اس صدقہ کا داعیہ، پیدا ہو رہا ہے، کروں یا نہ کروں؟ یہ چیز صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں جب کسی نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرماتے کہ یا رسول اللہ، دل میں یہ خیال آرہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول فرمائی تو آکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ خیال آرہا ہے کہ میں اپنا سارا مال اس توبہ کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دوں، لیکن فوراً خود اس خیال پر عمل نہیں کیا، اس لئے کہ یہ عمل کہ سارا مال صدقہ کر دوں، یہ عمل مناسب ہے یا نہیں؟ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس داعیے پر عمل کرنے کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ .

فرمایا کہ سارا مال صدقہ مت کرو، بلکہ کچھ مال اپنے پاس رکھو، اسی میں بہتری ہے، گویا کہ آپ نے حد بتادی کہ اس حد تک کرو، اس حد سے آگے مت کرو۔

نیکی کے داعیہ کو ٹلاؤ و نہیں

بہر حال! جب فرض و واجب عبادات کا دل میں داعیہ پیدا ہو تو اس میں کسی مشورے اور کسی استخارے کی ضرورت نہیں، وہ تو فرض ہے، واجب ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے، لیکن جب نقلی عبادات کا نقلی نیکیوں کا دل میں داعیہ پیدا ہو تو مناسب یہ ہے کہ اپنے شیخ سے، اپنے رہنما سے، اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے، تاکہ کوئی کام اپنی خود رائی سے نہ ہو، اس لئے کہ خود رائی کے کام میں برکت نہیں ہوتی، جب آدمی کسی بڑے کے کہنے سے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، لیکن اس داعیہ کو اس طرح مت ٹلاؤ کہ وہ ٹلتے ٹلتے بالآخر وہ داعیہ ختم ہی ہو جائے، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے بارے میں یہ سبق دیدیا، بلکہ ساری نیکیوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کے اندر ٹلانے کا معاملہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

دوسرے سے کوئی حاجت طلب کرنے کا طریقہ

ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمْ



الْحَاجَّةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلْبًا يَسِيرًا. فَإِنَّمَا لَهُ مَا قَدَّرَ لَهُ. وَلَا يَأْتِي  
أَحَدُكُمْ صَاحِبَةً فَيَمْدَحُهَا فَيَقْطَعُ اللَّهُ.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو افقہ صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، ان کا یہ مقولہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ظاہر میں تو یہ ان کا اپنا مقولہ ہے، لیکن صحابہ کرام اس قسم کی جو باتیں بیان فرماتے ہیں، وہ درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے ماخوذ ہوتی ہیں، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے سے کوئی حاجت طلب کرے تو آرام سے طلب کرے، زیادہ اصرار نہ کرے، مثلاً ایک شخص کسی دوسرے سے بطور قرض کوئی رقم مانگ رہا ہے، یا کوئی اور اپنی حاجت دوسرے سے پوری کرانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اپنی حاجت تو بیان کر دے کہ مجھے فلاں حاجت ہے، آپ پوری کر دیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔

اللہ سے مانگنے میں اصرار کرو

بہر حال! دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے اپنی حاجت ذکر کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اس طرح مانگو کہ اس پر کوئی بوجھ نہ بنے، ایسا اصرار کرتا کہ بس سر پر سوار ہو گئے کہ میں ہر قیمت پر یہ ضرورت پوری کرا کر جاؤں گا، لے کر جاؤں گا، ایسا اصرار کسی مخلوق سے کرنا جائز نہیں، ہاں! ایسا اصرار کرنا ہو تو اللہ میاں

سے دعا کے اندر اصرار کرو کہ یا اللہ! میں تو یہ چیز لے کر ہی جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں ٹلوں گا، وہاں یہ اصرار کرو، لیکن مخلوق سے مانگنے میں اصرار نہ ہو، بس اپنی بات نرمی سے اور آہستگی سے کہہ دو، جس سے اس کے دل پر بوجھ نہ پڑے۔

### حاجت طلب کرتے وقت تعریف مت کرو

ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ تمہارا کام اتنا ہے کہ اپنی کوشش کرو، ملے گا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ طلب یسر کرو، یعنی اجمالی طلب کرو، پھر آگے فرمایا: وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ صَاحِبَةٌ فَيَمْدَحُهُ. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے کوئی ضرورت پیش آگئی، اور اس سے کچھ مانگنا پڑ گیا تو اب جا کر اس کی تعریفیں شروع کر دیں، اور اس کی چالپوسی کرنی شروع کر دی، مثلاً یہ کہ آپ تو بڑے سخی ہیں آپ تو ایسے ہیں، ویسے ہیں، ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے، وغیرہ..... تاکہ یہ شخص اپنی تعریف سن کے لٹو ہو جائے، اور پھر میرا کام کر دے، اس لئے آپ بنے فرمایا کہ جب کسی سے کوئی چیز طلب کر رہے ہو تو اس کی تعریف مت کرو، کیوں؟ اس لئے کہ جب دوسرے آدمی کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو اس تعریف کے نتیجے میں وہ بعض اوقات فتنہ کا شکار ہو جاتا ہے، عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لئے خواہ مخواہ آپ نے تعریف کر کے ان فتنوں میں مبتلا کر دیا، اس لئے کسی کے منہ پر زیادہ تعریف کرنا غلط ہے، بس جو بات اور جو ضرورت اس سے کہنی ہے وہ کہہ دو کہ مجھے یہ ضرورت ہے، یہ کام ہے، آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اس سے زیادہ نہ اصرار کرو، اور نہ تعریف کرو،

اور نہ تملق اور چا پلوسی سے کام لو۔

## اصرار سے لیا جانے والا مال حلال نہیں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں یہ تعلیم دی، ظاہر ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم ہے، لہذا اس سے وہی سبق ملا جو بار بار آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، کہ اپنے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو، کیونکہ جب زیادہ اصرار سے طلب کرو گے تو وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا، اس کے ذہن پر بوجھ پڑے گا، اس بوجھ کے نتیجے میں وہ آپ کو کچھ دیدے گا، لیکن طیب نفس سے نہیں دے گا، اور طیب نفس سے نہ دینے کی صورت میں اس کا حلال ہونا بھی آپ کے لئے مشکل ہے، اس وجہ سے اپنی کسی حاجت کو دوسرے سے مانگنے میں اصرار کرنا جائز نہیں، اور اس حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس حدیث کے مقتضی پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔

وآخر دعوانا الحمد لله رب العلمین

## اجمالی فہرست

## اصلاحی خطبات مکمل

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
		(۱) جلد	
۱۰۹	۵۔ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟	۱۹	۱۔ عقل کا دائرہ کار
۱۳۳	۶۔ آزادی نسواں کا فریب	۴۵	۲۔ ماہِ رجب
۱۷۱	۷۔ دین کی حقیقت	۵۷	۳۔ نیک کام میں دیر نہ کیجئے
۱۹۹	۸۔ بدعت ایک سنگین گناہ	۸۹	۴۔ ”سفاش“ شریعت کی نظر میں
		(۲) جلد	
۱۷۳	۱۳۔ سیرت النبی ﷺ کے جلے اور جلوس	۲۳	۹۔ بیوی کے حقوق
۱۸۹	۱۴۔ غریبوں کی تحقیر نہ کیجئے	۷۱	۱۰۔ شوہر کے حقوق
۲۲۵	۱۵۔ نفس کی کشمکش	۱۱۷	۱۱۔ قربانی، حج اور عشرہ ذی الحجہ
۲۴۵	۱۶۔ مجاہدہ کی ضرورت	۱۴۹	۱۲۔ سیرت النبی ﷺ اور ہماری زندگی
		(۳) جلد	
۱۵۷	۲۳۔ وعدہ خلافی اور اس کی صورتیں	۲۱	۱۷۔ اسلام اور جدید اقتصادی مسائل
۱۷۳	۲۴۔ خیانت اور اس کی مروجہ صورتیں	۴۹	۱۸۔ دولت قرآن کی قدر و عظمت
۱۹۷	۲۵۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟	۷۵	۱۹۔ دل کی بیماریاں
۲۲۱	۲۶۔ بڑوں کی اطاعت اور ادب کے تقاضے	۹۷	۲۰۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ
۲۳۵	۲۷۔ تجارت دین بھی، دنیا بھی	۱۲۱	۲۱۔ کیا مال و دولت کا نام دینا ہے؟
۲۴۷	۲۸۔ خطبہ نکاح کی اہمیت	۱۳۵	۲۲۔ جھوٹ اور اس کی مروجہ صورتیں

- ۲۹۔ اولاد کی اصلاح و تربیت ..... ۲۱
- ۳۰۔ والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ ..... ۵۱
- ۳۱۔ غیبت ایک عظیم گناہ ..... ۷۹
- ۳۲۔ سونے کے آداب ..... ۱۰۷
- ۳۳۔ تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ ..... ۱۲۹
- ۳۴۔ زبان کی حفاظت کیجئے ..... ۱۴۱
- ۳۵۔ حضرت ابراہیم اور تعمیر بیت اللہ ..... ۱۵۷
- ۳۶۔ وقت کی قدر کریں ..... ۱۷۷
- ۳۷۔ انسانی حقوق اور اسلام ..... ۲۲۵
- ۳۸۔ شبِ برأت کی حقیقت ..... ۲۵۵

## جلد (۵)

- ۳۹۔ ”تواضع“ رفعت اور بلندی کا ذریعہ ... ۲۵
- ۴۰۔ ”حسد“ ایک معاشرتی ناسور ..... ۶۱
- ۴۱۔ خواب کی حیثیت ..... ۸۷
- ۴۲۔ سستی کا علاج ..... ۱۰۳
- ۴۳۔ آنکھوں کی حفاظت کیجئے ..... ۱۱۷
- ۴۴۔ کھانے کے آداب ..... ۱۳۵
- ۴۵۔ پینے کے آداب ..... ۲۱۵
- ۴۶۔ دعوت کے آداب ..... ۲۴۱
- ۴۷۔ لباس کے شرعی اصول ..... ۲۵۷

## جلد (۶)

- ۴۸۔ ”توبہ“ گناہوں کا تریاق ..... ۲۳
- ۴۹۔ درود شریف ایک اہم عبادت ..... ۷۷
- ۵۰۔ ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی ..... ۱۱۳
- ۵۱۔ بھائی بھائی بن جاؤ ..... ۱۳۹
- ۵۲۔ بیمار کی عیادت کے آداب ..... ۱۶۳
- ۵۳۔ سلام کرنے کے آداب ..... ۱۸۱
- ۵۴۔ مصافحہ کرنے کے آداب ..... ۱۹۷
- ۵۵۔ چھ زین نصیحتیں ..... ۲۱۱
- ۵۶۔ امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے؟ ... ۲۳۹

## جلد (۷)

- ۵۷۔ گناہوں کی لذت ایک دھوکہ ..... ۲۵
- ۵۸۔ اپنی فکر کریں ..... ۴۷
- ۵۹۔ گناہ گار سے نفرت مت کیجئے ..... ۷۱
- ۶۰۔ دینی مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ..... ۸۳
- ۶۱۔ بیماری اور پریشانی ایک نعمت ..... ۱۰۵
- ۶۲۔ حلال روزگار نہ چھوڑیں ..... ۱۲۹
- ۶۳۔ سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل ..... ۱۴۵
- ۶۴۔ سنت کا مذاق نہ اڑائیں ..... ۱۷۱

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۹۳	۶۸۔ غیر ضروری سوالات سے پرہیز کریں	۱۹۱	۶۵۔ تقدیر پر راضی رہنا چاہئے
۳۰۵	۶۹۔ معاملات جدید اور علماء کی ذمہ داریاں	۲۲۵	۶۶۔ فتنہ کے دور کی نشانیاں
		۲۶۹	۶۷۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجئے

### (۸) جلد

۲۱۳	۷۶۔ خلق خدا سے محبت کیجئے	۲۷	۷۰۔ تبلیغ و دعوت کے اصول
۲۳۷	۷۷۔ علماء کی توہین سے بچیں	۵۷	۷۱۔ راحت کس طرح حاصل ہو؟
۲۵۷	۷۸۔ غصہ کو قابو میں کیجئے	۱۰۳	۷۲۔ دوسروں کو تکلیف مت دیجئے
۲۹۵	۷۹۔ مؤمن ایک آئینہ ہے	۱۳۷	۷۳۔ گناہوں کا علاج خوفِ خدا
۳۰۹	۸۰۔ دو سلسلے، کتاب اللہ، رجال اللہ	۱۷۳	۷۴۔ رشتہ داروں کیساتھ اچھا سلوک کیجئے
		۱۹۹	۷۵۔ مسلمان مسلمان، بھائی بھائی

### (۹) جلد

۱۷۷	۸۷۔ گناہوں کے نقصانات	۲۵	۸۱۔ ایمان کامل کی چار علامتیں
۲۰۵	۸۸۔ منکرات کو روکو۔ ورنہ!	۴۹	۸۲۔ مسلمان تاجر کے فرائض
۲۲۹	۸۹۔ جنت کے مناظر	۷۳	۸۳۔ اپنے معاملات صاف رکھیں
۲۵۵	۹۰۔ فکرِ آخرت	۹۳	۸۴۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟
۲۷۹	۹۱۔ دوسروں کو خوش کیجئے	۱۲۵	۸۵۔ آپ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟
۲۸۹	۹۲۔ مزاج و مذاق کی رعایت کریں	۱۵۵	۸۶۔ کیا آپ کو خیالات پریشان کرتے ہیں؟

### (۱۰) جلد

۱۱۹	۹۸۔ بحث و مباحثہ اور جھوٹ ترک کیجئے	۲۵	۹۳۔ پریشانیوں کا علاج
۱۳۷	۹۹۔ دین سیکھئے اور سکھانے کا طریقہ	۵۹	۹۴۔ رمضان کس طرح گزاریں؟
۱۵۵	۱۰۰۔ استخارہ کا مسنون طریقہ	۸۳	۹۵۔ دوستی اور دشمنی میں اعتدال
۱۷۱	۱۰۱۔ احسان کا بدلہ احسان	۹۷	۹۶۔ تعلقات کو نبھائیں
۱۸۱	۱۰۲۔ تعمیر مسجد کی اہمیت	۱۰۹	۹۷۔ مرنے والوں کی بُرائی نہ کریں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۵۹	..... ۱۰۷۔ غلط نسبت سے بچنے	۱۹۱	۱۰۳۔ رزق حلال کی طلب ایک دینی فریضہ...
۲۷۳	..... ۱۰۸۔ بڑی حکومت کی نشانیاں	۲۱۵	۱۰۴۔ گناہ کی تہمت سے بچنے
۲۸۹	..... ۱۰۹۔ ایثار و قربانی کی فضیلت	۲۲۷	۱۰۵۔ بڑے کا اکرام کیجئے
		۲۳۵	۱۰۶۔ تعلیم قرآن کی اہمیت

### جلد (۱۱)

۲۰۵	..... ۱۱۶۔ دوسرا سبب	۲۷	۱۱۰۔ مشورہ کرنے کی اہمیت
۲۳۹	..... ۱۱۷۔ تیسرا سبب	۵۱	۱۱۱۔ شادی کرو، لیکن اللہ سے ڈرو
۲۶۵	..... ۱۱۸۔ چوتھا سبب	۸۳	۱۱۲۔ طنز اور طعن سے بچنے
۲۷۹	..... ۱۱۹۔ پانچواں سبب	۱۱۹	۱۱۳۔ عمل کے بعد مدد آئے گی
۳۰۱	..... ۱۲۰۔ چھٹا سبب	۱۳۷	۱۱۴۔ دوسروں کی چیزوں کا استعمال
		۱۶۹	۱۱۵۔ خاندانی اختلافات کا پہلا سبب

### جلد (۱۲)

۱۵۷	..... ۱۲۶۔ حضور ﷺ کی آخری وصیتیں	۲۵	۱۲۱۔ نیک بختی کی تین علامتیں
۱۹۳	..... ۱۲۷۔ یہ دنیا کھیل تماشہ ہے	۶۳	۱۲۲۔ جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت
۲۲۷	..... ۱۲۸۔ دنیا کی حقیقت	۸۳	۱۲۳۔ عید الفطر ایک اسلامی تہوار
۲۵۷	..... ۱۲۹۔ سچی طلب پیدا کریں	۱۰۱	۱۲۴۔ جنازے اور چھینکنے کے آداب
۲۸۵	..... ۱۳۰۔ بیان بر ختم قرآن کریم و دعا	۱۲۹	۱۲۵۔ خندہ پیشانی سے ملنا سنت ہے

### جلد (۱۳)

۱۰۱	..... ۱۳۶۔ وضو کے دوران اور بعد کی دعا	۲۷	۱۳۱۔ مسنون دعاؤں کی اہمیت
۱۲۵	..... ۱۳۷۔ وضو کے ہر عضو دھونے کی دعا	۳۹	۱۳۲۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا
۱۳۹	..... ۱۳۸۔ وضو کے بعد کی دعا	۵۳	۱۳۳۔ وضو ظاہری اور باطنی پاکی کا ذریعہ ہے
۱۴۷	..... ۱۳۹۔ نماز فجر کیلئے جاتے وقت کی دعا	۶۷	۱۳۴۔ ہر کام سے پہلے ”بسم اللہ“ کیوں؟
۱۶۳	..... ۱۴۰۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا	۸۳	۱۳۵۔ ”بسم اللہ“ کا عظیم الشان فلسفہ و حقیقت

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۷۵	۱۳۷۔ کھانا سامنے آنے پر دعا	۱۷۷	۱۳۱۔ مسجد سے نکلنے وقت کی دعا
۲۹۱	۱۳۸۔ کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا	۱۹۳	۱۳۲۔ سورج نکلنے وقت کی دعا
۲۹۹	۱۳۹۔ سفر کی مختلف دعائیں	۲۰۷	۱۳۳۔ صبح کے وقت پڑھنے کی دعائیں
۳۱۵	۱۵۰۔ قربانی کے وقت کی دعا	۲۳۹	۱۳۴۔ صبح کے وقت کی ایک اور دعا
۳۲۹	۱۵۱۔ مصیبت کے وقت کی دعا	۲۴۷	۱۳۵۔ گھر سے نکلنے اور بازار جانے کی دعا
۳۳۹	۱۵۲۔ سوتے وقت کی دعائیں واذکار	۲۶۳	۱۳۶۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا

## جلد (۱۴)

۱۹۱	۱۶۱۔ نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقہ	۲۹	۱۵۳۔ شب قدر کی فضیلت
۲۰۳	۱۶۲۔ نماز کا مسنون طریقہ	۴۳	۱۵۴۔ حج ایک عاشقانہ عبادت
۲۲۱	۱۶۳۔ نماز میں آنے والے خیالات	۵۹	۱۵۵۔ حج میں تاخیر کیوں؟
۲۳۷	۱۶۴۔ خشوع کے تین درجات	۷۵	۱۵۶۔ محرم اور عاشوراء کی حقیقت
۲۵۱	۱۶۵۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو	۸۹	۱۵۷۔ کلمہ طیبہ کے تقاضے
۲۶۹	۱۶۶۔ اوقات زندگی بہت قیمتی ہیں	۱۱۹	۱۵۸۔ مسلمانوں پر حملہ کی صورت میں
۲۸۵	۱۶۷۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا نصاب	۱۳۵	۱۵۹۔ درس ختم صحیح بخاری
۲۹۹	۱۶۸۔ زکوٰۃ کے چند اہم مسائل	۱۷۵	۱۶۰۔ کامیاب مومن کون؟

## جلد (۱۵)

۱۶۷	۱۷۶۔ آنکھیں بڑی نعمت ہیں	۲۹	۱۶۹۔ تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک
۱۸۳	۱۷۷۔ خواتین اور پردہ	۶۳	۱۷۰۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟
۱۹۹	۱۷۸۔ بے پردگی کا سیلاب	۸۱	۱۷۱۔ اچھے اخلاق کا مطلب
۲۱۵	۱۷۹۔ امانت کی اہمیت	۹۹	۱۷۲۔ دلوں کو پاک کریں
۲۲۷	۱۸۰۔ امانت کا وسیع مفہوم	۱۱۷	۱۷۳۔ تصوف کی حقیقت
۲۵۱	۱۸۱۔ عہد اور وعدہ کی اہمیت	۱۳۵	۱۷۴۔ نکاح جنسی تسکین کا جائز ذریعہ
۲۶۵	۱۸۲۔ عہد اور وعدہ کا وسیع مفہوم	۱۵۱	۱۷۵۔ آنکھوں کی حفاظت کریں



صفحہ نمبر

صفحہ نمبر

عنوان

۱۸۳۔ نماز کی حفاظت کیجئے ..... ۲۸۳

## جلد (۱۶)

۱۸۳۔ صحت اور فرصت کی قدر کر لو ..... ۲۷

۱۸۵۔ وقت بڑی نعمت ہے ..... ۲۵

۱۸۶۔ نظام الاوقات کی اہمیت ..... ۵۹

۱۸۷۔ گناہ چھوڑ دو، عابد بن جاؤ گے ..... ۸۷

۱۸۸۔ ”قناعت“ اختیار کرو ..... ۱۰۳

۱۸۹۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ ..... ۱۲۳

۱۹۰۔ بڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ..... ۱۳۳

۱۹۱۔ دوسروں کیلئے پسندیدگی کا معیار ..... ۱۶۵

۱۹۲۔ چار عظیم صفات ..... ۱۸۳

## جلد (۱۷)

۲۰۱۔ کسی کا مذاق مت اڑاؤ ..... ۲۷

۲۰۲۔ طعن و تشنیع سے بچئے ..... ۲۳

۲۰۳۔ بدگمانی سے بچئے ..... ۵۷

۲۰۴۔ جاسوسی مت کیجئے ..... ۷۳

۲۰۵۔ غیبت مت کیجئے ..... ۸۷

۲۰۶۔ کون سی غیبت جائز ہے؟ ..... ۹۹

۲۰۷۔ غیبت کے مختلف انداز ..... ۱۱۳

۲۰۸۔ قومیت کے بت توڑ دو ..... ۱۲۳




۲۰۹۔ وحدتِ اسلامی کس طرح قائم ہے؟ ..... ۱۴۰

۲۱۰۔ جھگڑوں کا بڑا سبب قومی عصبیت ..... ۱۵۳

۲۱۱۔ زبانی ایمان قابل قبول نہیں ..... ۱۶۷

خاندانی اختلافات کے اسباب اور انکا حل  
کتابی صورت میں دستیاب ہے  
رعایتی قیمت

# ممبر امتیاز پبلسٹی



E-mail : memonip@hotmail.com